

فیضان الہامی

۹۵۲
۱۰۰

کتاب فضائل چہار بارہ عرف غنیہ سہانی ابن اسلام کے لئے اردو زبان میں
 لکھی ہے۔ خصوصاً اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو فرقہ روافض و خوارج کے دام سے بچانے
 اپنے اہل و عیال کو بچانے کے لئے اس کتاب کا مطالعہ فروری ہے۔ یہ کتاب ان صاحب
 فضائل کا مخزن ہے۔ جن کے شان میں کلام الہی یعنی قرآن مجید میں بہت جگہ لکھی
 ہیں اور سب کا نتیجہ یہ آیت مَرْضَى اللّٰہِ عَنْہُمْ وَاَرْضُوا عَنْہُمْ بِمَا کَانَ سَارِطِیْنِکَ
 نے نازل فرمائی ہے۔ ناظرین کی خدمت میں الہامی ہے کہ وہ اس کتاب سے بہت فائدہ حاصل
 مؤلف خاکسار کے حق میں دعائے خیر فرمادیں۔ اور اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت
 بیور خواست بھی ہے کہ وہ اس کتاب کی توسیع اشاعت میں کما حقہ کوشش فرمادیں
 کہ اس پہلے ایڈیشن کی ایک ہزار کاپیاں جو کچھ بھی زیادہ نہیں ہیں ہاتھوں ہاتھ فروخت
 ہو جائیں۔ اور ناظرین خود انصاف سے فرمائیں کہ ۱۴۰ صفحوں کی کتاب ہر خانہ دار کے پاس
 کنگر کا بھانڈا نہیں تو اور کیا ہے۔ یقین ہے کہ جب خریدار اس کتاب کو اس منظوری سے
 خرید کرے گا تو فروری کے گانے

جمادے چند و آدم جان خریدم

بھرا اللہ عجب ارزاں خریدم

المؤلف - خاکسار محمد عبدالسبحان سوداگر بہاول پور۔ مالک کتب خانہ

فضائل حضرت چہار یار رضی اللہ عنہم

اللہ ایک ہے وہی عبادت کے لائق ہے۔ اپنے صفات ہیں وہ یکتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیغمبر مقرر ہوئے۔ اللہ پاک نے قیامت کے پہلے حق کے ساتھ مومنوں کو خوشی کا فروں کو ڈرا لے کے لئے بھیجا۔ جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی۔ اس نے راحت ابدی پائی جو نافرمان ہوا۔ اس نے اپنے نفس کو تکلیف میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل و اصحاب کی محبت عطا فرماوے۔

فضائل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بے انت و بے شمار ہیں۔ ان میں سے حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند فضائل یہ ہیں۔

آپ کا اسم مبارک عبداللہ بن عثمان ابی قحافہ ہے۔ ساتویں پشت میں آپ کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے ملتا ہے۔ مشاہد ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ زمانہ جاہلیت اور اسلام میں کبھی آپ سے جدا نہ ہوئے۔ مردوں میں سب سے پہلے آپ ہی اسلام لائے۔ آپ نے اسلام اور جاہلیت میں کبھی شراب کا استعمال نہیں کیا۔ اور نہ کبھی کسی بت کو سجدہ کیا۔ آپ کے ماں اور اولاد سب کے سب صحابی ہیں۔ خدا تعالیٰ سے یہ درجہ بزرگی آپ کے اور

کسی کو صحابہ میں سے عنایت نہیں ہوا۔

موطا میں یحییٰ بن سعید سے روایت ہے کہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب

میں تین چاندوں کو دیکھا کہ میرے حجرے میں گرے پڑے ہیں۔ صبح کو یہ قصہ

حضرت ابوبکرؓ سے بیان کیا۔ آپ اس وقت تو خاموش ہو رہے۔ مگر جب

حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اور پیر حجے میں فون ہوئے

تو فرمایا اے بیٹی! یہ تعبیر تمہارے اس خواب کی ہے جو تم نے دیکھا تھا ان تین چاندوں

کا ایک چاند یہ ہے۔ (اس کا کنایہ اور فقہنا حضرت ابوبکرؓ کی بھی فضیلت بھی

سگئی وہ یہ کہ ان تین چاندوں میں سے ایک میں بھی ہوں) حضرت صلح نے فرمایا

مسجد میں آمدورفت کے لئے کوئی کھڑکی اور دروازہ بندوں بند کئے نہ چھوڑا

جائے۔ مگر حضرت ابوبکرؓ کا۔ بخاری میں قیس سے روایت ہے کہ بلالؓ

نے حضرت ابوبکرؓ سے عرض کیا۔ اگر آپ نے مجھے اپنی خدمت کے لئے خرید

ہے۔ تو معہ عمل خدا کے لئے مجھے چھوڑ دیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے اس کو راضی فرمایا

اور اس کی رہنمائی کے لئے فرما دیا۔ اور یہ آیت آپ کے حق میں نازل

ہوئی۔ (وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى) یعنی دین کی

آگ سے وہ متقی بچایا جائے گا جو اپنا مال دیتا اور پاک ہوتا ہے

مسلم میں حضرت ابوبکرؓ سے مروی ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے فرمایا تم میں سے آج کون روزہ دار ہے۔ حضرت ابوبکرؓ نے عرض کیا کہ میں
 پھر فرمایا کہ آج جنازہ کے ساتھ تم میں سے کون گیا۔ حضرت ابوبکرؓ بولے میں
 پھر فرمایا کس نے آج تم میں سے مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ حضرت ابوبکرؓ بولے
 کہ میں نے۔ پھر فرمایا بیمار کی بیمار پر سہی تم میں سے آج کس نے کی ہے حضرت ابوبکرؓ
 نے کہا میں نے۔ پس حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص
 میں یہ خصلتیں جمع ہوں گی وہ ضرور جنتی ہے۔

بخاری مسلم میں جبیر بن مطعم سے روایت ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 نے عمرو بن العاص کو ذات السلسل کے لشکر میں (ایک زمین کا نام ہے) امیر بنا کر
 بھیجا تھا تو ان کے پہنچنے کے بعد ان کی کمک کے لئے ابو عبیدہ بن جراح کو دو سو
 نثار و مہاجرین کے بزرگوں کے ساتھ جن میں حضرت ابوبکرؓ و حضرت عمرؓ
 تھے بھیجا۔ مگر اس زمانہ میں امامت عمرو بن العاص ہی کرتے رہے۔ پس جب
 قروں کو شکست اور مسلمانوں کو فتح ہوئی تو حضرت عمرو بن العاص کو خیال
 ہوا کہ چونکہ میں ان لوگوں کا امام ہوں تو مرتبہ میں بھی ضرور افضل ہوں گا۔ چنانچہ
 سب لشکر نظر پیکر واپس آیا تو انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 سے پوچھا۔ ان موجودہ لوگوں میں سے آپ کے نزدیک محبوب تر کون شخص ہے۔
 فرمایا عورتوں میں سے عائشہؓ۔ حضرت عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا

کہ میرا سوال تو مردوں میں سے ہے۔ فرمایا عائشہ کے والد کے پاس سے کہنا حضرت
 ابو بکرؓ کے بعد فرمایا عمرؓ۔ اس کے بعد جو جو میں سوال کرتا گیا آپؐ کو یہی آدمیوں
 گنتے گئے۔ میں اس خوف کی وجہ سے کہ مبنا واسب سے پیچھے ہٹتا ہوں غالباً
 ہو رہا ہے۔

ترمذی میں عبد اللہ بن عمر بن الخطاب سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکرؓ سے فرمایا کہ تو میرا بیٹا تھا غار میں اور آخرت
 میں حوض کوثر پر میرا صاحب ہوگا۔ (یعنی ابو بکرؓ دنیا اور آخرت میں میرا امیر
 ہے) اور یہ غار کا لفظ غالباً اسی سے نکالا گیا ہے۔ غار سے مراد جبل ثور کا غار ہے
 جو مکہ معظمہ کے قریب واقع ہے۔ آنحضرت صلعم ہجرت کر کے پہلے وہیں مخفی ہوئے تھے
 جب پورے علماء کا مقولہ ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کی صحبت کا منکر انکار ہے۔ کیونکہ انصاری
 کا انکار ہے۔ بخلاف حضرت عمرؓ۔ عثمانؓ۔ علیؓ کی صحبت کے انکار سے کافر نہیں ہوتا

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اراد ان ينظر الي عتيق من النار
 فلينظر الي ابي بكر يفي فرمایا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو
 شخص یہ ارادہ کرے کہ میں دیکھوں اس کو جس کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے
 آزاد کر دیا ہے پس وہ حضرت ابو بکرؓ کو دیکھے۔

زیرین میں حضرت عمر بن الخطابؓ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت ابو بکرؓ

شانے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رو کر کہا میں چاہتا ہوں کہ میرا
 سارا عمل حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے تمام دنوں میں سے ایک دن کے عمل کی مانند اور ان کی
 تمام راتوں میں سے ایک رات جیسا عمل ہوتا۔ لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی رات وہ
 رات ہے جس میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار کی طرف
 آپ نے سفر کیا۔ جب در غار پر پہنچے تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ
 سبھی اس میں داخل نہ ہوں۔ پہلے میں اندر اتروں کیونکہ اگر اس غار میں کوئی ہودی
 (ساتھ بچھو وغیرہ) ہو تو اس کا فر رنجھی کو پہنچے آپ اس سے مشورہ کریں۔ پھر آپ نے
 تمہارے گھس کر شب کی تاریکی میں اپنے ہاتھ سے غار کو صاف کیا۔ اس غار کی جانب
 کسی سوراخ آپ نے پائے اور ان کو اپنا تہ بند پھاڑ پھاڑ کر بند کر دیا۔ مگر وہ سوراخ باقی
 رہ گئے اور کپڑا ہو چکا تو آپ نے دو نو سوراخوں میں اپنے سر دیدیئے۔ اور آنحضرت
 سے عرض کیا۔ آئیے تشریف لائیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے۔ اور
 حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زانو پر سر رکھ کر سو گئے۔ یہاں ساتھ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں کاٹنے
 لگا۔ مگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاگنے کے خوف سے جنبش تک
 نہ کی۔ اور تکلیف سے آنسو ٹپکسا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر گرے۔
 آپ جاگ اٹھے اور فرمایا اے ابوبکر رضی اللہ عنہ کیوں روتے ہو عرض کیا میرے ماں باپ
 حضور پر سے فریاد ہوں پاؤں میں ساتھ لگتا ہے۔ حضرت نے اس جگہ اپنے

منہ کا لعاب ڈال دیا جس سے فوراً زہر کا اثر جاتا رہا۔ مگر آخری عمر میں اسی زہر نے رجوع کیا۔ اور آپ کی وفات کا یہی سبب ہوا جس کی میں آرزو کرتا ہوں) ایک عجیب کہتہ یہ ہے۔ جس طرح حضرت رسول کریم صلعم کو یہودی نے خیبر میں بکری زہری ہولی کھلا اور وفات کے وقت اس کا اثر ظاہر ہوا جس وجہ سے آپ کا انتقال ہوا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر رضہ کو یہ واقعہ پیش آیا۔ پس وفات حضرت رسول اللہ صلعم ہر امر میں خفیہ وفات میں پوری ہوئی۔ پس اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی۔

ایک روایت میں محمد بن عقیل بن ابی طالب سے مروی ہے کہ ہم کو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ سنا کر فرمایا اے لوگو سب آدمیوں میں شجاع ترین کون شخص ہے۔ (محمد بن عقیل کہتے ہیں) میں بول اٹھا آپ سے شجاع اور کون شخص ہوگا۔ فرمایا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضہ ہیں۔ جب بدر کا دن ہوا تو ہم نے حضرت رسول اللہ صلعم کے لئے عیش (چھترا) رکھ کر کہا کوئی ایسا شخص حضرت رسول اللہ صلعم کے پاس کھڑا ہو۔ جو مشرکین کو آپ کے قریب نہ ہونے دے۔ پس تمام شکر میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضہ کے سوائے اور کوئی نہ اٹھا۔ اور وہ آنحضرت صلعم کے سر پر شمشیر برہنہ لئے کھڑے رہے۔ جو مشرک آپ کے قریب ہوتا اسی کو تلوار سے قتل کرتے۔

بخاری شریف میں ابی سلمہ بن عبدالرحمن بن عوف رضہ حضرت عائشہ صدیقہ رضہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلعم کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر رضہ اپنی منزل مسخ

(مدینہ کے قریب ایک موضع ہے) سے گھوڑے پر چڑھ کر آئے اور سیدھے حضرت عائشہؓ
 کے حجرے میں چلے گئے۔ کسی سے بات تک نہ کی پس حضرت کے پاس آنے کا ارادہ کیا
 اس وقت حضرت پر ایک لکیر دار چادر پڑی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کا منہ
 کھولا اور اوندھے ہو کر لوبہ لیا پھر زازار روئے لگے اور فرمایا میرا باپ آپ پر سے
 فریاب ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر دو موتوں کا کبھی اجتماع نہ ہوگا (یعنی اس کے بعد موت
 نہ آئے گی) جو موت آپ کے لئے مقرر ہو چکی تھی وہ آپ چمکے چمکے۔ ابوسلمہ کہتے ہیں مجھے ان
 جہاس نے خبر دی کہ یہ کہہ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ باہر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے کلام کر رہے
 تھے۔ آپ نے انہیں بٹھایا وہ نہ بیٹھے۔ پھر بٹھایا نہ بیٹھے آپ نے خطبہ شروع کر دیا سب
 لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پس آپ نے فرمایا حمد
 و صلوات کے بعد واضح ہو جو کوئی تم سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوجتا تھا وہ تو امتثال
 کرے۔ اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ ہمیشہ سے زندہ ہے کبھی نہیں مرے گا۔ دیکھو خدا تعالیٰ
 فرماتا ہے۔ وَمَا جُعِلَ إِلَّا لِلرَّسُولِ يَعْزُّبُ مِمَّنْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهُ لِيُتَبَيَّنَّ لِلرَّسُولِ
 مِمَّنْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهُ لِيُتَبَيَّنَّ لِلرَّسُولِ مِمَّنْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهُ لِيُتَبَيَّنَّ لِلرَّسُولِ مِمَّنْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهُ
 میں۔ کیا جب وہ لڑ جائیں یا مارے جاویں تم مرتد ہو جاؤ گے۔
 راوی احمد بن حنبلہ شریف کہتے ہیں۔ بخیر لوگوں کا یہ حال تھا کہ گویا ان کو اس آیت کے نزول کا
 علم بھی نہ تھا۔ مگر جب حضرت ابابکر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی تو تمام لوگوں نے آپ سے سیکھ
 لیا۔ پس میں کسی آدمی کو نہ سنتا تھا مگر وہ یہی آیت پڑھتا تھا۔

مسلم میں ائمہ المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض الموت میں فرمایا کہ اے عائشہ اپنے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہنا کہ میں نے تمہیں تمہارا کو بلاؤ کہ میں خلافت کی بات کہتا ہوں کہ جو تمہیں مجھے خوفی ہے کوئی امتیازی تمہارا کہے یا کوئی کہے والا کہے میں خلافت کا زائد سنتی ہوں۔ حالانکہ وہ مستحق نہ ہوگا۔

والفدا و زعمنا میں نہیں گئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لینے اور ان کی خلافت میں کسی کو اختیار نہ ہوگا۔

بیرواد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل آیا اور ساتھ پرک کر جنت کے اس دروازہ کو دکھلایا جس میں سے میری امت داخل ہوگی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلعم کیا ابھی بات ہوتی کہ میں بھی اس وقت آپ کے ساتھ ہوتا اور اس دروازہ کو دیکھتا آپ نے فرمایا اے ابو بکر رضی اللہ عنہ آگاہ ہو میری امت میں میرے سے پہلے تم ہی جنت میں جاؤ گے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کا حساب ہوگا۔ مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جنت میں داخل ہوگا۔

رافع بن عمر بن عبد بن عباس سے روایت کرتے ہیں اور ایسی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی آئی ہے ان کا خطاب یہ ہے کہ حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام سخت مریض ہوئے تو

اس وقت فرمایا کہ نماز پڑھ کر وقت ہو گیا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا وقت پڑھ کر ہو گیا ہے تو فرمایا کہ بلال کو کہہ دو کہ اذان دین۔ بلال کو اذان کے لئے کہا۔ حضرت بلال نے اذان دی۔ پھر حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ ابوبکرؓ کو کہہ دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ وہ رفیق القلب نرم دل ہیں آپ کے بغیر نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ آپ کی جگہ کھڑے ہوتے ہی رو دیں گے۔ آپ اگر غیر ابوبکرؓ کو حکم فرما دیں تو بہت اچھا ہے۔ آپ نے فرمایا تم (اے عورتوں) یوسف علیہ السلام کے مصاحب بنہوں نے باوجود اپنی خطا کے انہیں قید خانہ میں بھیجا، ہو۔ پھر فرمایا کہ حضرت ابوبکرؓ سے کہہ دو کہ نماز پڑھا دیں۔ حضرت ابوبکرؓ اس وقت موجود نہ تھے حضرت عمرؓ موجود تھے۔ لوگوں نے حضرت عمرؓ کو کھڑا کر دیا۔ جب حضرت علیہ السلام نے کھڑکی سے حضرت عمرؓ کو نماز پڑھاتے دیکھا تو فرمایا عمرؓ کو منع کر دو کہ اب نماز نہ پڑھا دیں۔ ابابکرؓ کو کہہ دو کہ نماز پڑھا دیں۔ اتفاق سے حضرت ابابکرؓ بھی تشریف لے آئے اور حکم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجا لاکر نماز پھر پڑھا لی۔

اشعری کہتے ہیں۔ جمہور علما کا مقولہ ہے کہ حضرت ابوبکرؓ حضورؐ کے زمانہ میں امانت کے اہل ہونے کے ساتھ مشہور تھے۔ ام المومنین حضرت حفصہؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کی حالت میں حضرت ابوبکرؓ کو آپ امام بنائیں۔ حضرت نے فرمایا میں انہیں کیا امام بناؤں گا خدا خود بنا لے گا۔

ابو نعیم ابو ذر سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
بنی کے بعد ابو بکر سے زائد کوئی ایسا بزرگ اور افضل شخص نہیں ہے جس پر تسبیح
نکلا اور ڈوبا ہو۔

دارقطنی میں روایت ہے کہ ابو جحیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے افضل امت ہونے کا معتقد تھا۔
جب اس نے اپنے اعتقاد کے مخالف لوگوں کے اقوال سے تو سخت غمگین ہوا۔ حضرت
علی رضی اللہ عنہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے آئے اور کہا اے ابو جحیفہ کس چیز سے تجھے ایسا غمناک
کیا۔ اس نے آپ سے قصہ بیان کیا۔ فرمایا کیا میں تجھے بہترین آدمیوں کی خبر دوں
اے ابو جحیفہ پھر یہ حدیث بیان کی کہ بہترین اس امت کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پھر حضرت
عمر رضی اللہ عنہ۔ ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بالمشافحہ یہ حدیث مجھ سے
بیان کی۔ میں نے خدا سے عہد کیا کہ مرتے تک کبھی حدیث کو نہ چھپاؤں گا۔
ترمذی اور نسائی اور حاکم نے عبد اللہ بن شعیق سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت عائشہ
سے پوچھا۔ کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو سب سے پیارا کون شخص تھا فرمایا ابو بکر رضی
اللہ عنہ نے کہا پھر کون فرمایا عمر رضی اللہ عنہ۔ میں نے کہا پھر کون فرمایا ابو عبیدہ بن جراح رضی
اللہ عنہ نے کہا پھر کون تو وہ چپ ہو رہے۔

طبری اور ابو نعیم وغیرہ نے معاذ بن جبل سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ
کو یمن کی طرف امیر بنا کر بھیجے گا ارادہ کیا تو آپ سے اصحاب یمن سے لوگوں سے مشورہ

لیا۔ اُن میں حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و علی و طلحہ و زبیر و اوسہ بن حصیر رضی اللہ
 تعالیٰ عنہم بھی تھے۔ پس قوم میں سے ایک آدمی نے اپنی رائے بیان کی۔ رسول خدا نے
 فرمایا اے معاذ تم کیا کہتے ہو۔ میں نے کہا جو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں وہی میں بھی
 کہتا ہوں۔ پس نبی صاحب نے فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان میں اس بات کو مکروہ جانتا
 ہے کہ ابو بکر زمین میں خطا کرے۔

طبرانی اوسط میں فرماتے ہیں کہ سہل بن سعد الساعدی نے کہا کہ رسول اللہ صلعم
 نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ابو بکر کا غاٹی ہونا مکروہ جانتا ہے۔ اس حدیث کے کئی راوی
 ثقہ ہیں۔

لہذا یہ تہذیب میں کہتے ہیں کہ صدیق اُن تمام اصحاب میں سے ایک صحابی ہیں جنہوں
 نے کُل قرآن شریف حفظ کیا تھا۔

ابن عساکر عبد الرحمن بن ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر بن الخطاب
 نے حدیث کی کہ میں نے جس صحابی کے کام میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سبقت کا ارادہ کیا
 آپ ہی (یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ) کُل کام میں سبقت لے گئے۔

طبرانی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ مجھے اُس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری
 جان ہے۔ ہم نے کسی بھلے کام میں کبھی سبقت کا ارادہ نہیں کیا۔ مگر حضرت ابو بکر رضی
 اللہ عنہ اس میں سبقت لے گئے۔

ظہرائی اوسط میں ابو جحیفہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہترین شخص ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ پیری محبت اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دشمنی مومنین کے دہان میں کبھی جمع نہ ہوگی۔

ابن عساکر ابی حصین سے روایت کرتے ہیں کہ اویم علیہ السلام کی اولاد میں نبیوں اور پیغمبروں کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے زائد بزرگ کوئی پیدا نہیں ہوا۔ عرب کے مرتد ہونے کے زمانہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نبیوں میں سے ایک نبی کے قائم مقام تھے۔ یعنی نہایت بہادری اور دلیری سے جہاد میں مال و جان قربان کرنے پر آمادہ ہوئے۔ گو خلافت کا ان کا زمانہ اور بہت سے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے جہاد سے مانع ہوئے۔

حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تک نے آپ کی سواری کی باگ پکڑ کر فرمایا کہ آپ ابھی ہرگز جہاد کا ارادہ نہ کریں۔ یہاں اختلاف میں اختلاف اور امور دین میں اختلاف واقع ہوئے۔ مگر آپ نے ان باتوں کا بالکل خیال نہ کیا۔ اور اختلاف کے مطالب پر وہ اہم نہ کر کے فرمایا۔ واللہ ثم باللہ۔ اگر تم نہیں سے کوئی بھی میرے ساتھ نہ ہوگا تو کچھ پروا نہ کروں گا اور تنہا ان لوگوں سے جہاد کروں گا۔

ابن عساکر شیبہ سے روایت کرتے ہیں کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو چار ایسی خصلتوں کے ساتھ مخصوص کیا کہ لوگوں میں سے اور کسی کو ان کے ساتھ خاص نہیں کیا۔

آپ کا نام صدیق رکھا اور کسی کا یہ نام نہیں رکھا۔ وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ
نہ تھے ہجرت میں آپ کے رفیق تھے۔ رسول اللہ نے آپ کو نماز پڑھانے کا حکم فرمایا
حالانکہ تمام مسلمان حاضر تھے۔

حاکم اپنی صحیح میں سعید بن المسیب سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضرت
علیہ السلام کے وزیر کے مرتبہ میں تھے۔ آپ ان سے اپنے تمام کاموں میں مشورہ لیتے۔
اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ میں۔ غار میں۔ بدھ کے دن چھریں۔ قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
دوسرے تھے۔ آنحضرت پر آپ پر کسی کو قدم نہ کرتے تھے۔

مختلف صحیح اور نکتہ روایات سے معلوم ہوا ہے کہ یہ آیات حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ صدیق عتیق کے حق
میں نازل ہوئی ہیں۔

۱) فانزل اللہ سکتہ در۲، واللیل اذا یغشی عن ان سعیکم لشتی تک۔

۳) من اعلى واتقى وصدق بالحسنى ال۴) وسیمینہا الاتقی ال۵)

۶) والذی جاء بالصدق وصدقی بہ ۷) ونزعنا ما فی صدق وراحم

۸) اخوانا علی سر متقین ال۹) ووصینا الانسان لوالدینہ احسانا

۱۰) وعد الصدق الذی کانوا یوعدون تک ۱۱) الا تفر وہ فقد نصرہ اللہ

اذا اخرجت الذین کفروا ثانی اثین اذا هما فی الغارہ

۱۲) ان جماع ہو چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل بشر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں پھر حضرت عمر

فاروق رضی اللہ عنہ پھر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ پھر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ پھر تمام عشرہ مبشرہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم پھر باقی اہل بدو پھر باقی اہل احد پھر باقی اہل بیت پھر باقی صحابہ اسی منصور بغدادی نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہاجرا اور انصاریہ کے متفق مشورے نے خلیفہ بنایا۔ اول حضرت عمر نے بیعت کی پھر ہاجرا اور انصاریہ نے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مہاجر پر چڑھ کر دیکھا تو حضرت زبیر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود نہ تھے۔ مگر وہ اسی وقت بلانے سے چلے آئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم

کہا ہے کہ ہم قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے خلافت کے زیادہ مستحق ہیں۔ کیا تم مسلمانوں کے عصا کو پھاڑنا چاہتے ہو۔ حضرت زبیر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے ہم اس میں کچھ بھلائی نہیں دیکھتے کہ مسلمانوں کو تتر بتر کریں۔

یہ کہا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس خلافت میں تمام لوگوں سے زیادہ مستحق دیکھتے اور ان کی بزرگی بھلائی خوب پہچانتے ہیں۔ اول تو وہ صاحب غار ہیں۔ دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں انہیں امامت کا حکم فرمایا۔ مگر ہم کو تو صرف مشورے میں شامل کرنے سے رنج ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہمارے دین کے لئے پسند کیا تو ہم اپنے لئے دنیا میں کیوں نہ پسند کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مہاجر پر چڑھ کر خطبہ پڑھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بڑائی اور استحقاق بیان کیا۔ اور یہ بھی بیان فرمایا کہ مجھ سے جو

خلف بیعت ہوئی یہ جسد کی وجہ سے نہ تھی۔ اور خداوند تعالیٰ نے جو فضیلت انہیں دی ہے
میں اس سے انکار نہ تھا۔ لیکن ہم اس مشورہ میں اپنا بڑا حصہ سمجھتے تھے۔ اس کی علامت گئے
بتہ ہم کو کچھ رنج پہونچایا۔ اس گفتگو سے تمام مسلمان خوش ہو گئے۔

بن عساکر ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے نزدیک حضرت
ابوبکرؓ سے احسان کرنے میں کوئی اعظم تر نہیں ہے۔ اس نے اپنی مال اور جان سے میری
مخواری کی ہے۔ اپنی بیٹی مجھے بیاہ دی ہے۔

بگ اعد و حین جس میں آپ کے بہت لوگ بھاگ گئے تھے۔ اس میں حضرت ابابکر صدیقؓ
بیت قدم رہے۔ آپ کے جہاد مشاہد سے پایا جاتا ہے کہ آپ سب اصحابوں سے زیادہ شجاع تھے۔

ابو علی اپنی مسند میں اور حاکم اور ابن سعد حضرت عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ خدائی قسم ایک
دن میں گھر میں تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یاروں کے ساتھ گھر کے صحن میں تشریف رکھتے
تھے۔ فجر میں اور ان میں ایک پر وہ بڑا ہوا تھا۔ اچانک حضرت ابوبکرؓ آئے سو نبی صاحب
نے فرمایا جیسے روز رخ سے آزاد کئے ہوئے کو دیکھنا بھلا معلوم ہو وہ حضرت ابوبکرؓ کو دیکھو۔

بخاری میں ہے وہ حضرت عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہؓ نہراہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نے کسی شخص کو حضرت ابوبکرؓ کے پاس اس لئے بھیجا کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم جو اللہ صاحب نے فدک اور مدینہ میں بدوں جنگ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ارزانی فرمایا تھا
اور جو چیز کے خمس میں سے آپ کا مال باقی رہا تھا۔ میرا کر کہ دینا چاہئے۔ حضرت ابوبکرؓ نے

کہا بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارا کوئی وارث نہیں ہے بلکہ ہم نے چھوڑا صدقہ ہے جو تم
 ہے۔ اس مال سے آل و عیال اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزیہ جاری رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کا صدقہ اسی حال پر رہے گا۔ جس طرح آپ کے زمانہ میں تھا۔ ذرہ بھر تغیر نہ کروں گا
 جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر تعریف کرتے تھے میں بھی اسی طرح کروں گا۔ اس انکار کا حضرت
 فاطمہؓ کو رنج ہوا۔ اور چہ ماہ زندہ رہی مگر اب فدک کے بارے میں گفتگو نہ کی اور ایام زندگی
 میں حضرت ابو بکرؓ اور حضرت بنی فاطمہؓ کے درمیان مصالحت ہو گئی تھی۔ حضرت ابو بکرؓ ان کی
 دل بولی کے لئے ان کے پاس آئے اور فرمایا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی
 آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ تمہاری اور تحصیلدار
 کی قوت نکالنے کے بعد وہ اس مال کو بفرمودہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فقروں مسکینوں اور
 مسافروں کو تقسیم کرتے تھے۔ حضرت فاطمہؓ نے فرمایا آپ بھی اس میں وہی کیجئے جو میرے
 والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا مجھ پر فرض ہے کہ جس طرح آپ کے والد کرتے
 تھے اسی طرح میں بھی کروں۔ حضرت فاطمہؓ نے فرمایا خدا تم ویسا ہی کرو۔ آپ نے فرمایا خدا ویسا
 ہی کروں گا۔ پھر حضرت فاطمہؓ نے فرمایا اے اللہ تو اس امر پر شاکر رہ کہ میں اس پر غم نہ
 کہتی ہوں اور آپ سے راضی ہوتی ہوں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکرؓ ان کا حصہ نکال کر پہلے
 بھیجتے اور فقروں اور مسافروں کو بانٹ دیتے۔

امام احمد عبدغفر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے ایک دن مہرہ پر چڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا

کچھ ذکر کیا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حضرت ابو بکرؓ خلیفہ ہوئے۔ آپ کے انتقال کے بعد حضرت عمرؓ خلیفہ ہوئے۔ آپ بھی اپنی وفات تک دو نوجوانوں کے قانون پر عملدرآمد کرتے رہے۔ ان دو نو کی چال نہ چھوڑی۔

امام احمد اپنی سند میں ابو جحیفہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علیؓ کے افضل الناس ہونے کا معتقد تھا۔ میں نے کہا اے امیر المؤمنین نجد میں تمام مسلمانوں میں آپ ہی کو افضل سمجھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکرؓ کے بعد افضل الناس کی میں تجھے حدیث کروں۔ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا وہ حضرت عمرؓ ہیں۔

مناقب حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ از تصنیف مؤلف صحیفہ ہذا

<p>زادہ و اہل کرم عالی و قار لیک کرتا ہوں میں ان کا اختصار مال و جاں ان پر کیا کرتے شمار ہو گئے حضرت پر مانند حصار کافروں پر کر رہے تھے اس کے وار ہے حدیث حضرت والا شمار کم نہیں ہے ان کو اتنا افتخار</p>	<p>حضرت ابو بکرؓ تھے پر ہیزگار ہیں فضائل ان کے بے حد و عدد سید الکونین کے تھے یار غار بدر میں صدیقؓ نے حامی بھری اس کے خیر ہاتھ میں جروت کے ساتھ ہے فضیلت خلاق پر ابو بکرؓ کو جائیں گے ابو بکرؓ پہلے خلد میں</p>
---	--

ہے وہ علی مرتبہ صدیق رحمہ کا
 کون ہے بوکرہ بن حسن کے کیا
 ہاشم بن مسند پیغمبری
 بہترین خلق ہیں بعد از نبی
 جاہلیت میں بھی یہ حضرت مدام
 جو نہ سمجھے مرتبہ صدیق رحمہ کو

ہیں لی میں بھی قریب یا زنا
 مان سارا راہ مولا میں نثار
 سب سے پہلے ہیں یہی ذی افتداری
 ان سے راضی ہے سدا پروردگار
 بت پرستی سے رہے تھے برکنار
 ہے وہی کذاب جاہل نابکار

عبدال بھی ہے ان کے دام سے لگا
 اس محبت کو رکھے حق برقرار

فضائل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ

حق تعالیٰ نے حضرت محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کو رسالت کا شرف عطا فرما کر مہاجر اور
 انصار سے ان کی امداد فرمائی۔ مہاجر اور انصار وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ
 رضامند ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو رضامند کرے گا۔ حضرت کے چاروں
 یا مہاجر اور انصار میں سے ہیں۔ اور چاروں ایک دوسرے سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔
 حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پہلے یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل
 پہلے اس کتاب میں فلم بند کئے جا چکے ہیں۔ اب دوسرے یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ
 عنہ کے فضائل تحریر کئے جاتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ العلیٰ العظیم۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر تھے۔ جب ابتداء میں اسلام کو ظاہر ہونے کی طاقت نہ تھی اور کفار عرب کا غلبہ تھا۔ تو حضرت غایبہ الصلوٰۃ والسلام نے جناب باری تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا رب العالمین عمرؓ کو مسلمان کر تاکہ اسلام کو قوت پہنچے۔ حضرت علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور جبریل علیہ السلام نے جو فرشتہ مقرب وحی کا کام دیتے تھے (حضرت علیہ السلام کو عمرؓ کے اسلام لانے کی پیشگوئی سنائی۔ پس اسی وقت حضرت عمرؓ حضرت علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لاکر مسلمان ہوئے۔ ان کے اسلام لانے ہی تمام مسلمان لوگوں میں خوشی ہوئی اور تمام کفار پر رعب چھا گیا۔ اور اپنے اسلام لانے کو کفار سے چھپانہ رکھا۔ اور خود ہی مشہور کر دیا۔ حضرت عمرؓ کی شجاعت کے غیر مذہب کے لوگ بھی بہت معترف ہیں کہتے ہیں کہ اگر حضرت عمرؓ جیسے ایک اور شخص بھی اسلام

میں پیدا ہوتے تو یقیناً آج سوائے اسلام کے اور کوئی مذہب دنیا میں نہ ملتا۔

جب حضرت ابوبکرؓ کی بیماری سمٹ ہوئی تو آپ نے عبدالرحمن بن عوف اور عثمان بن

عمران اور سعید بن زید اور اسد بن حضیر وغیرہ کو اور انصار و ہاجرین میں سے بلا کر

مشورہ کیا سب نے حضرت عمرؓ کو بہتر بتایا۔ اور امر خلافت پر حضرت عمرؓ سے قوی

تراندگی شخص نہ بتایا۔ اس کے بعد فرمایا میں نے تم پر اپنے بعد عمر بن الخطاب کو جو

بہترین مخلوق ہے۔ خلیفہ بنایا۔

ابن عساکرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطابؓ کے سوا ہم

کسی کو نہیں جانا کہ علی الاعلان ہجرت اختیار کی ہو۔ سب نے بغیر ہجرت کی۔ مگر جب حضرت
 عمرؓ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو مسلح ہو کر کعبہ میں آئے اور سات طواف کئے۔ کعبہ کے صحر
 میں قریش کے شریف لوگ بیٹھے تھے۔ آپ نے ان کے ایک ایک حلقہ میں آکر فرمایا
 تمہارے منہ بڑے بون جس کو اپنی ماں کو بنے فرزند کرنا اپنی اولاد کو یتیم چھوڑنا۔ اپنی
 جو رو کو بیوہ کرنا منظور ہو وہ اس جنگل کے سامنے مجھ سے ملاقات کرے۔ حضرت علیؓ
 فرماتے ہیں۔ پس ان میں سے کسی نے حضرت عمرؓ کا پیچھا نہ کیا۔ اللہ اعلم بالصواب
 قوی کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کل مقاموں میں حاضر رہے آپ
 ان لوگوں میں سے ہیں جو جنگ احد میں ثابت قدم رہے۔ اللہ اعلم بالصواب
 بخاری مسلم میں ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت
 میں سوتا تھا۔ اس حال میں میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا کہ ایک عورت محل کے
 کونے میں وضو کر رہی ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ محل کس کا ہے۔ فرشتوں نے کہا
 حضرت عمرؓ کا۔ مجھے حضرت عمرؓ کی غیرت یاد آگئی اور وہاں سے پلٹ آیا۔ حضرت عمرؓ
 یہ سن کر آب دیدہ ہوئے اور فرمایا آپ پر میں کیوں غیرت کرتا ہوں۔ اللہ اعلم بالصواب
 ترمذی میں ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمرؓ کی زبان
 اور دل پر حق جاری کر دیا ہے۔ ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ لوگوں پر واقعہ کبھی ایسا نہ آتا کہ اس میں
 لوگوں نے اور حضرت عمرؓ نے کلام کیا ہو۔ مگر قرآن حضرت عمرؓ کے قول کے موافق آتا

ترمذی اور حاکم میں عقیدہ بن عامر سے روایت ہے کہ آنحضرت نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمرہ ہوتے۔

ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا میں جن وانس کے شیطانوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ حضرت عمرہ سے بھاگ گئے۔

بہرائی ابی کعب سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ مجھ سے عبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے عمرہ کی موت پر اسلام روئے گا۔

بہرائی حسن سند کے ساتھ ابوسعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا۔ جس نے عمرہ کو غصہ دلایا۔ اس نے مجھے غصہ دلایا۔ جس نے عمرہ کو دوست رکھا اس نے مجھے

دوست رکھا۔ بے شبہ اللہ تعالیٰ نے عرفہ کے دن تمام لوگوں سے عموماً اور حضرت عمر سے خصوصاً فخر کیا۔ خدا تعالیٰ نے کسی نبی کو مخلوق پر نہیں بھیجا۔ مگر اس کی امت میں

ایسے شخص جن پر الہام ہوا ہے۔ ضرور تجھے۔ اگر میری امت میں ان میں سے کوئی ہے تو عمرہ نہیں جائے گا۔

ابن عساکر نے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ روضہ زمین پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے نہ اٹھ مجھے اور کوئی آدمی دوست نہیں۔

بہرائی نے اوسط میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب نیک بخت لوگ ذکر کے جائیں تو حضرت عمرہ کو ضرور اول ذکر کرنا چاہئے۔ ہم اس بات کو بعد نہیں سمجھتے تھے۔

کہ حضرت عمرؓ کی زبان پر سکینہ گویا ہوتا ہے۔

بلرائی کبیر میں اور حاکم ابن مسند میں عبد اللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ اگر حضرت عمرؓ کا علم ترازو کے ایک پلٹے میں اور تمام اہل زمین کے زندوں کا علم دوسرے پلٹے میں رکھا جاوے تو حضرت عمرؓ کا علم ان کے علم سے زیادتی لے جاویگا۔

حاکم جابر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علیؓ حضرت عمرؓ پر اس حال میں داخل ہوئے کہ ان پر کپڑا ڈالے گیا تھا۔ آپ نے فرمایا تجھ پر خدا کی رحمت ہو۔ مجھی اس کپڑے پڑے ہوئے سے زائد اور کوئی محبوب نہیں۔ اس امر سے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں اس چیز کے ساتھ جو اس صحیفہ میں ہے۔ بعد صحیفہ رسول خدا کے۔

ابن مسعود کہتے ہیں۔ جب نیکیوں کا ذکر ہو تو حضرت عمرؓ کے ذکر سے شروع کرو۔ کیونکہ حضرت عمرؓ ہم سب سے کتاب اللہ زائد جانتے تھے۔ اللہ کے دین میں ہم سب میں بہت بڑے فقیہ تھے۔

سفیان ثوری کہتے ہیں جو اس بات کا گمان کرے کہ حضرت علیؓ حضرت ابو بکرؓ وغیرہ سے خلافت کے زائد مستحق ہیں۔ میں تو اس میں کوئی بھلائی نہیں دیکھتا۔ ابو اسامہ کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کون ہیں۔ وہ اسلام کے ماں باپ ہیں۔ انام جعفر صادق کہتے ہیں جو حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کو بھلائی سے یاد نہ کریں میں اس سے بیزار ہوں۔

ابن سعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے غلام زکوان سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام فاروق کس نے رکھا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
 ابن ماجہ اور حاکم ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کے بعد حیرت میں نے ان کے کہا اب محمد صلعم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام سے اسلام والے خوشی میں ہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام سے رسول اللہ صلعم کو بہت بڑی قوت ملی۔ اور مسلمانوں کی از حد شوکت بڑھی۔ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ایک ہی زمانہ میں اسلام لائے۔ اس لئے اسلام کی شوکت اور بھی دو بالا ہو گئی۔ قریش کی کمریں ٹوٹ گئیں اور بتائے کی طرح دن بٹھ گئے۔

زار اور حاکم ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو مشرکوں نے کہا آج مسلمان ہم سے داو لے گئے۔ سو یہ آیت اتری اے نبی تجھے اللہ اور مومنین تابعین ہیں۔
 بخاری ابن مسعود سے روایت ہے کہ جب سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے ہم ہمیشہ غالب رہے۔
 بخاری اور ابن سعد عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا فتح ان کی ہجرت مدائن کی خلافت رحمت تھی۔ ہم نے اپنے آپ کو ایسے حال میں دیکھا کہ جب تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام نہ لائے تھے کعبہ میں نماز نہ پڑھ سکتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو آپ نے مشرکوں سے مقاتلہ کیا۔ یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے ساتھ مار پیٹ چھوڑ دیا پھر ہم نے کعبہ میں نماز پڑھی۔

کی ملامت کو نہ بکرائے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا پھر اس کے بعد کیا ہوگا۔ کہا آپ کے بعد ایک اور خلیفہ ہوگا۔ جسے ظالم جماعت قتل کرے گی۔ آپ نے فرمایا پھر کیا ہوگا۔ کہا پھر تو جدال و قتال اور فتنے واقع ہوں گے۔

حسن بصری کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ منگل کی صبح بائیسویں جمادی الثانی حضرت ابو بکرؓ کی وفات کے دن خلیفہ ہوئے۔ آپ نے امر خلافت پر پورا پورا قیام فرمایا۔ اور آپ کے زمانہ میں بکثرت فتوحات ہوئے۔

مسلم میں حضرت عمرؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں میں تین امروں میں اپنے رب کے موافق ہوا۔ پردہ میں بدر کے قیدیوں میں۔ مقام ابراہیمؑ پر نماز پڑھنے میں اور شراب کے حرام ہونے میں بھی اس کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا میں اپنے رب سے چار چیزوں میں موافق ہوا۔ جب یہ آیت

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ أُتْرَىٰ تَوَيْسٍ لَّيْلَىٰ قَبْلَ الْبَارِئِ أَلَمْ نَكُنْ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ
یہ آیت بعینہ اتری۔

ابو عبید اللہ شیبانی فضائل الامین میں کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ اکیس موضع میں اپنے رب سے موافق ہوئے۔

را، عبداللہ بن ابی کاقدہ عن الخطاب کہتے ہیں جب عبداللہ بن ابی (منافقوں کا سردار) مر گیا تو رسول خدا کو اس کی نماز کے لئے لوگوں نے بلایا سو آپ اس کی طرف کھڑے ہوئے اور میں بھی کھڑا ہوا۔ (جب آپ نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا) میں آپ کے سینہ کے سامنے آکھڑا ہوا۔ اور عرض

کہنے لگا اسے رسول خدا کیا آپ اللہ کے دشمن با بن ابی ہریرہ نے پڑھتے ہیں جو اللہ کے دشمن ابی ہریرہ
ایسی باتیں کہتا تھا۔ حضرت عمرؓ کہتے ہیں بخبر تھوڑی دیر نہ ہوئی تھی کہ یہ آیت اتری۔ وَلَا تَصِلُ اَعْلٰی

اَعْدَانِهِمْ مَا تَابُوا وَلَا تَقُمْ عَلٰی قَبْرِہِ لَمْ

(۱۲) یَسْئَلُوْکَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ۔

(۱۳) یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سٰکِرٰی۔

(۱۴) جب رسول خدا نے اپنی قوم کے لئے بکثرت بخشش مانگی تو حضرت عمرؓ نے فرمایا ان کے لئے بخشش
مانگنا نہ مانگنا برابر ہے۔ پس یہ آیت اتری سَوَآءٌ عَلَیْہِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَہُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَہُمْ

(۱۵) جب رسول خدا نے بدر میں نکلنے کے لئے صحابہ سے مشورہ کیا تو حضرت عمرؓ نے نکلنے کا اشارہ
فرمایا سو یہ آیت اتری کَمَا اَخْرَجَ رَبِّکَ مِنْ بَدِیْنِکَ بِالْحَقِّ۔ اس کو بڑا اچھے بن عباس سے روایت

کیا ہے۔

(۱۶) جب رسول خدا نے صحابہ سے حضرت عائشہؓ کی نعمت کے قصہ میں مشورہ کیا تو عمرؓ نے اسے حضرت عائشہؓ کو آپ سے
کس نے کیا۔ فرمایا اللہ نے کہا کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ پر ان کا عیب لکھا رکھا۔ خدا کچھ
چاہے یہ تو بڑا ہی بہتان ہے۔ پس یہی آیت (سجناک ہذا بہتان عظیم) اتری۔

(۱۷) روزوں کے قصہ میں جبکہ حضرت عمرؓ نے خبر ہونے کے پیچھے اپنی بوی سے صحبت کی جانا
ابتداء سے اسلام میں یہ حرام تھا سو یہ آیت اہل لکم ایامہ الصیام الوقت نازل ہوئی۔

(۱۸) عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے حضرت عمرؓ سے منکر کہا کہ جبرئیل جبرئیل

صاحب (محمد صلعم) ذکر کرتے ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا جو کوئی خدا اور اس کے
 فرشتوں اور پیغمبروں اور جبرئیل اور میکائیل کا دشمن ہو سو خدا کا فریوں کا دشمن ہے۔ پس
 حضرت عمرؓ کے قول کے موافق یہ آیت اتری۔ من کان عدوا لئہ و ملائکتہ اذ
 (۹) ابوالاسود سے روایت ہے کہ دو شخص نبی صلعم کے پاس جھگڑا لائے۔ آپ نے ان دونوں میں
 فیصلہ کیا مگر جس شخص پر ڈگری ہوئی تھی وہ کہنے لگا میں حضرت عمرؓ کے پاس بھیج دیجئے۔ چنانچہ وہ
 دونوں حضرت عمر بن الخطابؓ کے پاس آئے۔ ایک شخص نے ان میں سے کہا۔ جناب اس شخص پر مجھے سزا
 دے ڈگری دی۔ اس نے کہا میں حضرت عمر بن الخطابؓ کے پاس بھیج دیجئے۔ آپ نے دوسرے
 شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ یہ تمہیک بات ہے اس نے کہا ہاں فرمایا یہیں بھیج دو جتیک
 میں تمہارے پاس آؤں سو تھوڑی دیر میں ان کے پاس تلوار لے آئے۔ اور جس شخص نے
 کہا تھا کہ میں حضرت عمر بن الخطابؓ کی طرف بھیج دیجئے اس کو تلوار ماری اور قتل کر ڈالا۔ دوسرا
 شخص بھاگا تو رسول خدا کے پاس آیا اور کہنے لگا خدا کی قسم حضرت عمرؓ نے میرے یار کو قتل
 کر ڈالا۔ حضرت نے فرمایا میں تو یہ گمان نہیں کرتا کہ عمر ایک مومن کے قتل پر جرات کریں۔ پس یہ
 آیت فلا وربک لا یؤمنون الخ نازل ہوئی۔ سو اس شخص کا خون رائیگان گیا۔ اور حضرت عمرؓ اس کے
 قتل سے بری ہوئے۔ اس کو ابن ابی حاتم اور ابن مردیہ نے روایت کیا ہے۔

درا گھر میں اجازت سے داخل ہونا۔ اور یہ یوں ہوا۔ کہ حضرت عمرؓ کا غلام ان پر ایسے وقت آیا
 کہ آپ سوتے تھے۔ پس فرمایا اسے اللہ بدوں اجازت سے تم پر نا حرام کر دے۔ سو آپ نے

یا ایہا الذین آمنوا لیستأذونکم الیٰ انتری۔

۱۱۱) یہود کی بابت کہ وہ ایک قوم ہو چکی ہے۔

(۱۲) یہ اللہ تعالیٰ کا قول ختمہ من الاولین و ختمہ من الاخرین۔

(۱۳) الشیخ والشیخہ اذا زینا الہ اس کی تلاوت منسوخ ہے۔ مگر حکم باقی۔

(۱۴) احد کے دن جب ابوسفیان نے کہا کیا کوئی قوم میں باقی ہے (حضرت عمرؓ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا) آپ اسے کیوں نہیں جواب دیتے۔ سو آنحضرتؐ نے آپ کی موافقت کی۔ عثمان بن سعید

الدارمی سالم بن عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ کعبہ جبار نے کہا آسمان کی بادشاہ کی طرف سے زمین کے بادشاہ کے لئے خرابی ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا مگر جس نے اپنے نفس کا محاسب کیا کعبہ بولا۔

اُس قات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ یہ جملہ توراہ میں ہے۔ آپ نے اُس سے موافقت کی۔ حضرت عمرؓ یہ سن کر سجدے میں گر پڑے۔

ابن مردویہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ جمعہ کے دن خطبہ پڑھ رہے تھے اثناء خطبہ

میں فرمانے لگے اے ساریہ پہاڑ کی پناہ لے۔ جس نے بھیڑیے کو چروانا اُس نے ظلم کیا۔ حاضرین

حضرت عمرؓ کا یہ قول سن کر آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت علیؓ نے

اُن لوگوں سے کہا جو حضرت عمرؓ نے فرمایا ہے اُس کا کھوج تم نکال لوگے۔ چنانچہ جب خطبہ سے

فارغ ہوئے تو لوگوں نے آپ سے پوچھا فرمایا میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی تھی کہ مشرکوں

نے ہمارے بھائیوں کو بھگا دیا اور وہ پہاڑ چھوڑ کر آگے چلے گئے تھے۔ اگر پہاڑ کی طرف پھرتے

ایک ہی جہت سے لڑیں۔ اور اگر وہ اُس سے تجاوز کریں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ سو اُس
 وقت میرے موہنہ سے نکلا جو تم نے سنا۔ ابن عمر کہتے ہیں ایک مہینہ کے بعد وہاں سے قاصد
 آیا اور ذکر کیا کہ لشکریوں نے جمعہ کے دن حضرت عمرؓ کی آواز سنی۔ پھر ہم سب کے سب
 ہار کی طرف پھر آئے۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں فتح نصیب کی۔

بن دیرداخبار مشورہ میں قیس بن حجاج سے روایت کرتے ہیں کہ جب مصر فتح ہوا اور جس وقت
 عجم کے مہینوں میں سے اُن کا ایک خوشی کا دن آیا تو اہل مصر عمرو بن العاص سے آکر کہنے لگے۔ اے
 میرا مومنین ہمارے اس دریا کے نیل کی ایک عادت ہے کہ جیتک اس کی بھیت نہ دیں جاری
 نہیں ہوتا۔ عمرو بن عاص نے کہا وہ کیا ہے بولے جب اس مہینے کے گیارہ تاریخیں گزرتی ہیں
 تو ہم ایک کواری لڑکی کے متلاشی ہوتے ہیں۔ اور اُس کے والدین سے لیکر انہیں راضی کر کے عہد
 عمدہ کپڑے اور بیش قیمت زیور پہناتے ہیں۔ اور بنا سوار کر اس نیل میں ڈالا کرتے ہیں۔ عمرو بن
 عاص نے مصریوں سے کہا یہ رسم تو اسلام کبھی جائز نہ رکھے گا۔ کیونکہ اسلام امور جاہلیت کو نیست
 و نابود کرتا ہے۔ سو اہل مصر اس رسم سے باز رہے۔ اور دریا کے نیل جاری نہ ہوا۔ نہ تھوڑا نہ بہت
 جس سے قحط کے آثار معلوم ہوئے۔ حتیٰ کہ لوگوں نے شہر سے نکل جانے کا ارادہ کیا۔ عمرو
 بن العاص کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے سارا قصہ حضرت عمرؓ بن الخطابؓ کو لکھ بھیجا
 آپ نے جواب میں لکھا تم نے جو کچھ کیا اچھا کیا۔ بیشک اسلام ڈھکا دیتا ہے جو اُس سے پہلے
 ہے۔ اور ایک کاغذ کا پرچہ اپنے خط میں رکھ کر عمرو بن العاص کو لکھا۔

میں تمہارے پاس ایک کاغذ کا پرچہ جو سب خط میں رکھا ہے پھیلتا ہوں سو اس کو دیکھو
 نبل میں ڈال دو۔ پس جب حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما نے اس کاغذ پرچہ کو لکھا تھا۔ اس میں لکھا تھا۔ یہ خط امیر المؤمنین ابوبکر صدیق کے بندے عمر بن
 الخطاب رضی اللہ عنہما کی طرف سے نبل مصر کی طرف ہے۔ اب بعد۔ اگر تو اپنے آپ ہی جاری رہتا ہے تو
 مت جاری رہ۔ اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو میں اللہ واحد تمہارے ہاتھ میں
 کرتا ہوں کہ وہ صحیح جاری کر دے۔ سو عمرو بن العاص نے اس کاغذ کے پرچے کو یوم الصلیب
 کے ایک دن پہلے ڈال دیا۔ پس اہل مصر نے صبح کی اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ۱۹ گز بلندی
 ایک ہی رات میں جاری کیا۔ پس یہ برا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اہل مصر سے منقطع کر دیا۔
 ابن عساکر سن سے روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی جھوٹی بات چاہتا تھا جب بات کی جاوے
 تو وہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما تھے۔

تخریبین ثابت کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما جب کسی کو عامل مقرر کرتے تو اسے یہ لکھتے اور شہر
 کریتے کہ تری رہو اور پر سوار ہو تا۔ میدہ کی روٹی نہ کھانا۔ یا ایک کپڑا نہ پہنا۔ حاجتمندوں
 سے اپنا دروازہ بند نہ کرنا۔ اگر ایسا کرے گا تو سزا پائی ہوگا۔
 عکرمہ بن خالد کہتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا وغیرہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے
 کلام کیا اور کہا اگر آپ عمرہ کھانا کھائیں تو ہنسنے کا ہوں پر آپ کو بہت بڑی قوت ہو فرمایا
 کیا تم سب کی یہی رائے ہے کہا ہاں۔ فرمایا۔ میں نے تمہاری خیر خواہی بیان کی۔ مگر میں نے

پینے دو نون مصاحبوں (حضرت صلیم و ابو بکرؓ) کو اسی راہ پر چھوڑا ہے۔ اگر میں ان کی اس راہ کو
چھوڑ دوں گا۔ تو مرتبہ ان دو نون کا نہ پاؤں گا۔

بدا بن عامر بن ربیعہ کہتے ہیں۔ میں سنئے حضرت عمرؓ کے ساتھ حج کیا سو نہ تو آپ سے کوئی
نصوٰت خیر گاؤا۔ نہ کوئی بڑا سا بٹان اپنے ساتھ لیا۔ منزل میں چادر اور چڑے کا فرش دخت
بر والدیتے اور اس کے سایہ میں آرام کرتے۔

بن ابی عون اور ابن سعد اور یسار سلمی کہتے ہیں کہ جب حضرت عمرؓ استسقا کو آئے تو ان کے
مذہبوں پر رسول خدا صلیم کی چادر تھی۔ انہوں نے حضرت عباسؓ کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور کہا
سے التدمیرے نبی کے چچا کو تیرے پاس سفارشی لائے ہیں اس واسطے کہ تکلیف قحط سالی کی
م سے دور کر اور مینہ برسادے۔ راوی کہتا ہے کہ ابھی وہاں سے پھرے نہ تھے کہ مینہ برسایا
یا اور چند روز تک آسمان نمودار نہ ہوا۔

ہاکم سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن الخطابؓ منی سے پھرے تو لاہج
میں اونٹنی بٹھالی پھر لیٹ کر اپنے دو نون ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہا اے اللہ میری عمر بڑی
ہو گئی ہے۔ میرے قوسے میں ضعف آ گیا ہے۔ میری رعیت ملکوں ملکوں میں پھیل گئی
ہے۔ سوا ب بھگدیا اپنی طرف اس حال میں اٹھا کہ نہ تو میں ضائع کرنے والا ہوں اور نہ عبادت
میں تفصیر کرنے والا۔ راوی کہتے ہیں کہ وہی ہمینہ کوچہ کا تمام نہ ہوا تھا کہ حضرت عمرؓ شہید
ہو گئے۔ اس سے بھی حضرت عمرؓ کا مستجاب الدعوات ہونا اور مقبول دعا ہونا ثابت ہوا۔

بخاری کی صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے اکثر وقت یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ اے اللہ
 مجھے شہادت کا رتبہ نصیب کر۔ اور اپنے رسولؐ کریمؐ کے شہر (مدینہ) میں موت دے۔ یہ
 لوگ اس دعا کو سنتے تھے تو حیرت میں کہتے کہ بھلا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ حضرت عمرؓ
 مدینہ میں ہی انتقال کریں اور شہادت سے بھی محروم نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمرؓ
 کی اس دعا کو قبول فرمایا اور ابو لو، لو، نجوسی نے عین نماز کی حالت میں آپؐ کو خنجر دوسروالی
 سے شہید کر ڈالا۔

حاکم سعد بن ابی طلحہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے خطبہ پڑھتے پڑھتے فرمایا کہ میں نے
 خواب میں ایک مرغ دیکھا ہے کہ اس نے مجھے ایک یاد دھونگیں ماری ہیں اور میں اس کی
 یہی تعبیر دیکھتا ہوں کہ میری موت میرے سامنے آگئی ہے۔ ایک قوم خلیفہ بنانے کا مجھے حکم
 کرتی ہے۔ اور اللہ نہ تو اپنے دین کو ضائع کرے گا۔ نہ خلافت کو۔ سو اگر مجھ جلدی سے موت
 آجائے تو خلافت ان چہ آدمیوں کے مشورہ سے ہو جن سے حضرت رسولؐ خدا انتقال کے
 وقت راضی تھے۔ یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے کسی کو خلیفہ نہ بنایا۔ اور جب
 لوگوں نے دریافت کیا۔ تو صاف فرمادیا مجھے خلیفہ بنانے اور نہ بنانے میں کوئی ملامت نہیں اگر
 میں کسی کو خلیفہ بنا جاؤں تو بھی کچھ حرج نہیں۔ کیونکہ حضرت ابو بکرؓ نے مجھے خلیفہ بنا گئے ہیں۔
 اور وہ مجھ سے بہتر اور افضل تھے۔ اور اگر میں کسی کو خلیفہ نہ بنا جاؤں تو بھی کچھ نقصان نہیں۔
 کیونکہ حضرت رسولؐ اکرمؐ صلعم بدولت خلیفہ بنائے تشریف لے گئے۔ اور وہ سب سے افضل تھے۔

عمر بن تیمون از وی کہتے ہیں کہ میغزہ کے غلام ابو لوہ، ابو لوہ نے حضرت عمرؓ کے بنجر دو دو دم دجسے دو بارہا
 کہتے ہیں، بارہا اور آپ کے اور بارہ آدمیوں کو زخمی کیا۔ جن میں سے چہ آدمی شہید ہو گئے۔ سو
 ابن عراق بن سے ایک شخص نے ابو لوہ، ابو لوہ پر اپنا کپڑا ڈال دیا۔ جب اس نے اپنے آپ کو گرفتار
 پایا تو خود کشتی کی۔ ابو زافع کہتے ہیں ابو لوہ، میغزہ کا غلام تھا۔ اور میغزہ اس سے ہرون چار
 درہم لیتا تھا۔ ابو لوہ، ابو لوہ نے حضرت عمرؓ سے مل کر کہا اے امیر المؤمنین میغزہ نے مجھ پر بو تہہ
 رکھا ہے۔ آپ اس سے اس باب میں کلام کیجئے۔ حضرت عمرؓ کی نیت میں تو یہ ہی بات تھی
 کہ میغزہ سے اس کی سفارش کریں مگر ظاہر فرمایا کہ اپنے آقا کے ساتھ تو نیکی کر۔ اسے غصہ آیا
 اور کہنے لگا ان کا اوصاف بجز میرے اور سب لوگوں کو شامل ہے۔ اور دل میں ان کے
 قتل کا ارادہ کیا۔ پس ایک بنجر دو دو ہمارا بنا کر خوب تیر کیا۔ اور زہر میں بچھایا۔ حضرت عمرؓ
 کی عادت تھی کہ تکبیر سے پہلے فرمایا کرتے تھے کہ صفوں کو سپیدھا کرو اور خود پھر چل کر دیکھتے
 بھی تھے۔ ابو لوہ، ابو لوہ ہی بنجر دو دو سر لیکر آیا اور صف اول میں حضرت عمرؓ کے مقابل کھڑا ہوا۔
 اور آپ کے کندھے پر کئی ضرب اور کوک میں ایک ضرب ماری۔ حضرت عمرؓ زمین پر گر پڑے
 اور آپ کے ساتھ اور بارہ آدمیوں کو زخمی کیا۔ جن میں سے چہ شہید ہو گئے۔ حضرت عمرؓ
 کو اٹھا کر گھر میں لے گئے اور سورج نکلنے کے قریب تھا۔ یہاں عبدالرحمن بن عوف نے چھوٹی
 چھوٹی دو سورتوں سے نماز پڑھائی۔ اور حضرت عمرؓ کے پاس کھجور کا شیرہ لایا گیا۔ آپ نے
 اسے پیا مگر زخموں کی راہ سے نکل گیا۔ پھر لوگوں نے دودھ پلایا۔ وہ بھی نکل گیا۔ حاضرین نے

کہا آپ کچھ خوف نہ کیجئے۔ فرمایا اگر قتل میں خوف ہے تو میں مقتول ہو چکا۔ پس لوگ آپ کی
 تعریفیں کر کے کہنے لگے آپ ایسے ہیں آپ ایسے ہیں۔ فرمایا۔ خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ
 دنیا سے برابر سراسر نکلوں۔ نہ تو اس کا کچھ مجھ پر رہے نہ میرا اس پر۔ اور رسول خدا کی صحبت
 میرے لئے سالم رہے۔ اس کے بعد ابن عباس آپ کی تعریف کرنے لگے۔ فرمایا اگر میرے پاس
 پٹری زمین کی برابر سونا ہوتا تو قیامت کے موقع کے ہول سے سب کا سب قلابہ میں دیتا۔ اور
 میں نے امر خلافت کو عثمان۔ علیؓ طلحہؓ زبیرؓ عبد الرحمن۔ سعد کے مشورے میں سوچنا
 اور صہیب کو نماز پڑھانے کا حکم فرمایا۔ حضرت عباس کہتے ہیں۔ ابو لؤلؤہ اور مجوسی تھا۔
 ابن سعد زہری سے روایت کہ حضرت عمرؓ کسی مشرک بائع کو مدینہ میں لانے دیتے تھے
 حتیٰ کہ میغرہ بن شعبہ والی کو فہ نے آپ کو لکھا کہ یہاں ایک کاریگر ڈکا ہے (اور وہ ابن
 کعبہ سے) حضرت عمرؓ سے اجازت چاہتے تھے۔ کہ وہ (مدینہ میں داخل ہو۔ حضرت عمرؓ سے کہا کہ
 اس رٹے کو بہت سے ایسے کام آتے ہیں جن میں لوگوں کو بہت نفع ہے۔ یا جسے نجاری نقاشی
 کواری وغیرہ۔ حضرت عمرؓ نے اجازت دیدی۔ کہ اُسے مدینہ بھیجیں۔ اور میغرہ نے ہر مہینے میں
 سو درہم اس غلام پر لگائے تھے۔ اسی نے حضرت عمرؓ کے پاس آکر اس شکس کی شکایت کی اپنے
 فرمایا یہ شکس تو بہت نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ غلام غصہ میں بھرا ہوا چلا گیا۔ اور چند دن ٹھکر کر حضرت
 عمرؓ کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا مجھے خبر دی گئی ہے کہ تو یوں کہتا ہے۔ اگر میں چاہوں تو ایک
 ایسی جگہ بناؤں کہ خود بخود ہوا سے آتا پیسے۔ اس غلام نے حضرت عمرؓ کی طرف ترش رو ہو کر دیکھا

اور کہا میں آپ کے واسطے ایک ایسی چکی بنا تا ہوں کہ اس سے لوگوں میں بہت شہرت ہو۔ پس جب وہ غلام پیچھے پھیر کر باہر نکلا آپ نے اپنے باروں سے کہا مجھے یہ غلام دھکی اور ڈراو ادے کر گیا ہے۔ پھر رولہ رولہ (یعنی غلام) اور قاف خجرجس کا دستہ بیچ میں تقائے کر آیا۔ اور انہیں مسجد کے کونوں میں سے کسی کونے میں چھپ گیا۔ اور وہیں بیٹھا رہا۔ حتیٰ کہ حضرت عمرؓ نماز کے لئے لوگوں کو جگانے نکلے۔ پس جب آپ اس کے قریب ہوئے تو اس نے تین ضربیں اس خجرجی آپ کے پائوں پر ماریں۔ اور یہ حالت نماز میں واقع ہوئی۔

مسند احمد میں عمر بن الخطابؓ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں اگر مجھے موت آئی اور ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوں میں انہیں خلیفہ کر جاؤں۔ اگر مجھ سے میرا بپوچھے تو عرض کروں کہ میں نے حضرت رسول خدا صلعم سے سنا تھا وہ فرماتے تھے کہ ہر نبی کے لئے ایک امین ہوتا ہے۔ اور میرا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ اور اگر مجھے موت اس حال میں آئے کہ ابو عبیدہ مر چکے ہوں تو سفاد بن جہل کو خلیفہ بنا جاؤں۔ پھر اگر مجھ سے میرا بپوچھے کہ تو نے انہیں خلیفہ کیوں بنایا۔ عرض کروں میں نے رسول خدا صلعم سے سنا فرماتے تھے کہ معاذ کا قیامت کے دن تمام علماء کے آگے حشر ہوگا۔ درابہی کہتے ہیں یہ دونوں صاحب آپ کی ہی خلافت میں وفات پا چکے تھے۔ ابن عباسؓ اور اسمعیل بن زیاد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت علیؓ ابن ابی طالب رضوان میں مسجدوں میں آئے اور ان میں قنڈیلیں دیکھ کر فرماتے لے اللہ تعالیٰ عمر کی قبر میں روشنی کرے جیسا کہ انہوں نے ہماری مسجدوں کو روشن کیا۔

آن سعد سے نقل ہے کہ لوگ کہتے ہیں حضرت عمرؓ کا وزہ تنہا ہی تلواروں سے زیادہ ہیبت ناک

حاکم اور بطرانی کہہ میں ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز نے ابو بکر بن سلیمان

ابن ختمہ سے پوچھا کہ حضرت ابو بکرؓ کے زمانہ میں تملیفہ رسول اللہ کس وجہ سے لکھا جاتا تھا پھر حضرت

عمرؓ اول اول تو تملیفہ ابو بکرؓ لکھے جاتے تھے۔ مگر آخر میں ان کو سب سے پہلے کتب نے امیر المؤمنین

لکھا۔ ابو بکر بن سلیمان نے جواب دیا شفا نے مجھ سے حدیث کی۔ اور وہ نہا جرات میں ہے

میں کہ حضرت ابو بکرؓ خلیفہ رسول خدا اور حضرت عمرؓ خلیفہ رسول خدا لکھے جاتے تھے یہاں

تک کہ حضرت عمرؓ نے عراق کے عامل کو لکھا کہ میرے پاس دو ہتھیار مردوں کو بیچنے کے ہیں

ان سے عراق اور اہل عراق کا حال پوچھوں۔ سو اس نے عبیدہ بن ربیعہ اور عابدی بن حاتم

کو آپ کے پاس بھیجا۔ یہ دونوں مدینہ آکر مسجد میں داخل ہوئے۔ اور عمرو بن عاص کو مسجد

میں پایا۔ پھر انہوں نے کہا ہمارے لئے امیر المؤمنین پر داخل ہونے کی اجازت مانگ عمرو

نے کہا بخدا تم نے حضرت عمرؓ کا ٹھیک نام لیا۔ یہ کہہ کر عمرو بن عاص حضرت عمرؓ کے پاس آئے

اور کہا۔ السلام علیک یا امیر المؤمنین۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ اس نام لینے پر تجھے کس چیز نے

آنا وہ کیا۔ جو کچھ تو نے کہا ہے اس کو کھول کر بیان کر۔ سو اس نے گزشتہ قصہ بیان کیا۔

اور کہا آپ تو امیر ہیں اور ہم مومنین ابو بکرؓ نے عمرو بن عبد العزیز سے کہا آپس آئیں اور اس سے

یہ لکھنا جاری ہوا۔

ابن عساکر معاویہ بن قرہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ خلیفہ رسول خدا لکھے جاتے تھے۔ جب

حضرت عمر بن الخطاب خلیفہ ہوئے تو لوگوں نے چاہا کہ آپ کو خلیفہ رسول خدا کہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا تو بیت لہبا چوڑا نام ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں۔ چونکہ ہم آپ کو اپنا امیر بنا چکے ہیں تو اب آپ ہمارے امیر ہیں فرمایا ہاں ہاں تم مومنین ہو اور میں تمہارا امیر ہوں سو آپ کو امیر المومنین لکھا گیا۔

ابن سعد ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ عمر بن الخطاب جب تنگ دست ہوئے تو بیت المال کے داروغہ سے کچھ قرض مانگے اور آپ اکثر منطس رہا کرتے تھے۔ سو جب بیت المال کا داروغہ آپ کے پاس آتا تھا تو اسے آتا اور سخت تقاضا کرتا تو اس سے کچھ حیلہ کرتے اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جب مال آ گیا فوراً ادا کر دیا۔

ابن سعد حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے مال میں میں نے اپنا وہ مرتبہ رکھا ہے جو دلی یتیم کو یتیم کے مال میں مرتبہ ہوتا ہے۔ اگر میں تو نگر ہوں تو اس مال سے باز رہوں۔ اور اگر منطس ہو تو بقدر حاجت کھاؤں۔ پھر اگر اس کے بعد تو نگر ہو جاؤں تو اسے ادا کروں۔

ابن سعد ابن معرور سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر ایک دن نکلے اور منبر تک آئے۔ آپ کوئی مرض یا بھوک کی شکایت رکھتے تھے۔ لوگوں نے آپ سے شہد کی تعریف بیان کی۔ اور بیت المنان میں شہد کا ایک کپہ بھی تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر تم مجھے اجازت دو تو اس میں سے ٹھوڑے لوں۔ ورنہ وہ مجھ پر حرام ہے۔ لوگوں نے آپ کو اجازت دی

ابن سعد سالم بن عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر اونٹ کی پیٹھ زخم پر ہاتھ رکھ کر فرماتے

میں ڈرتا ہوں مبادا تیری تکلیف سے پوچھا ہوا ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کو منع کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے گھر میں آکر فرماتے دیکھو جس بات سے میں نے لوگوں کو منع کیا ہے۔ اگر اس کا ترکیب تو میں سے کسی کو پاؤں گا تو اوروں سے ڈگنی سزا دوں گا۔

ابن سعد ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ ایک بار گھوڑے پر سوار تھے۔ آپ کی ران سے کپڑا ہٹ گیا۔ اہل بخران نے ران میں ایک کالا تل دیکھ کر کہا یہ وہی شخص ہے جسے ہم اپنی کتاب میں پاتے ہیں کہ وہ ہماری زمین سے ہمیں نکال دے گا۔

سعد جاری کہتے ہیں کہ کعب احباب نے حضرت عمرؓ سے کہا ہم آپ کو اللہ کی کتاب میں جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ پر پاتے ہیں کہ لوگوں کو دوزخ میں گرنے سے روکتے ہو۔ پر تمہارا رب مرنے کے بعد وہ قیامت تک آگ ہی میں گھستے رہیں گے۔

ابن ابی شیبہ مصنف میں حکیم بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ بن الخطاب نے لکھا خبردار کوئی لشکر کا امیر اور رحمت کا سردار کسی کو حد نہ مارے حتیٰ کہ وہ پہاڑی کی تنگ راہ میں آوے۔ ایسا نہ ہو کہ اسے حمیت شیطان اُبھارے اور پھر کافروں میں جا لے۔ حضرت عمرؓ بن الخطاب فرماتے تھے کہ میری اولاد میں ایک ایسا شخص ہو گا کہ زمین کو انصاف سے بھروسے گا۔ اس کے موہنہ پر ایک تل ہو گا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔

ابن سعد ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ ہم ذکر کرتے تھے کہ دنیا نہ گزرے گی۔ جب تک عمر کی اولاد میں

بنا ایسا شخص جو عمر جیسا کام نہو۔ سو ہلال بن عبد اللہ بن عمر بن کے موٹھے پر تل تھا اہل ہر سب سے
 وہ لوگ گمان کرتے تھے کہ وہ وہی ہیں یہاں تک کہ اللہ عمرو بن عبد العزیز کو لایا۔

بن سعد سفیان بن ابوالعزیز سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطابؓ نے فرمایا بخدا مجھے معلوم نہیں

کہ میں خلیفہ ہوں یا بادشاہ اگر بادشاہ ہوں تو امر دشوار ہے۔ پس ایک کہنے والے نے کہا

اے امیر المؤمنین خلیفہ اور بادشاہ میں کیا فرق ہے۔ فرمایا کیا۔ کہا خلیفہ تو اپنا حق ہی لیتا

ہے۔ اور حق کو حق کی جگہ رکھتا ہے۔ اور آپ فضل خدا سے ایسے ہی ہیں۔ اور بادشاہ لوگوں

سے تعصب کر کے ایک سے لیتا اور دوسرے کو دیتا ہے۔ حضرت عمرؓ فرما موش ہو رہے۔

ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں شعبی سے روایت کرتے ہیں کہ قیصر روم نے حضرت عمرؓ بن الخطابؓ

کو نامہ لکھا کہ میرے قاصد جو آپ کی طرف سے آئے ہیں کہتے ہیں آپ کی ولایت میں ایک

درخت ہے کہ ان درختوں جیسی اُس کی پیدائش نہیں پہلے پھل گدھے کے کانوں جیسا

بظاہر ہوتا ہے۔ پھر پھٹ کر موتی جیسا ہوتا ہے۔ پھر ہر ہو کر سبز زمرہ کی طرح ہو جاتا ہے

اس کے بعد سبز یا قوت کی مانند احمق ہوتا ہے۔ پھر پک کر نختہ ہو کر فاصے اچھے فالودہ کی طرح

کھایا جاتا ہے۔ پھر خشک ہو کر تقیم کے لئے عصمت اور مسافر کے لئے توشہ راہ ہوتا ہے۔ اگر میرے

قاصد پہنچے ہیں تو میں کہ نہیں سکتا کہ سوائے جنت کے درختوں کے یہ درخت ہو۔ حضرت

عمرؓ نے اُس کی طرف یوں جواب لکھا اللہ کے بند سے عمر بن الخطابؓ امیر المؤمنین

طرف سے قیصر روم کو معلوم ہو بیشک تیرے قاصد پہنچے ہیں۔ اس قسم کا دین فرمایا کاش میں

پاس ہے۔ یہ اوہ درخت ہے کہ اللہ نے حضرت مریم پر جب ان کے بیٹے عیسیٰ پیدا ہوئے
 اگایا۔ سو تو اللہ سے ڈرا اور اس کے سوا بھنی کو معبود نہ بنا۔ کیونکہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے
 پاس آدم کی مانند ہے۔ انہیں مٹی سے پیدا کیا گیا۔

ابن سعد ابو امامہ بن سہیل بن صیف سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر (خلافت کے زمانہ میں)
 ایک عرصہ تک ہرے رہے۔ بیت المال کے مال سے کچھ نہ کھاتے تھے حتیٰ کہ آپ کو اس میں
 احتیاج ظاہر ہوئی۔ سو اصحاب رسول خدا کے پاس کسی کو بھیجا اور ان سے مشورہ کر کے
 فرمایا۔ میں اس خلافت میں ہمہ تن معروف ہوں۔ اب مجھے اس میں سے کس قدر لینا
 لائق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا صبح اور شام کا کھانا۔ آپ نے وہی لے لیا اور ان
 ابن سعد ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے اپنے حج میں کل سولہ دینار خرچ
 کئے۔ پھر فرمایا اے عبد اللہ ہم نے اس مال میں فضول خرچی کی۔

عبدالرزاق اپنی مصنف میں تلمذہ اور شعبی سے روایت کرتے ہیں۔ کہ حضرت عمر کے
 پاس ایک عورت نے آکر کہا میرا نام وندرات کو قیام اور دن کو روزہ رکھتا ہے۔ حضرت
 عمر نے فرمایا تو نے اپنے میاں کی بڑی خوبی بیان کی۔ کعب بن سوار نے کہا یا حضرت
 یہ تو اس کی شکایت کر رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کیونکر کہا وہ کہتی ہے میرے لئے خاوند
 بھروسہ نہیں۔ (یعنی رات دن کی عبادت سے اسے فرصت نہیں کہ میرے حقوق
 ابن سعد ابن عمر نے فرمایا جب تو نے اس بات کو سمجھا ہے تو تو ہی ان میں فیصلہ کر کے

وہ بولا اے امیر المؤمنین۔ اللہ نے مرد کے لئے چار عورتیں حلال کی ہیں۔ سو عورت کے لئے ہر چار دن میں ایک دن اور ہر چار راتوں میں ایک رات ہونی چاہئے۔

ابن جریر کہتے ہیں کہ حضرت جابر حضرت عمرؓ کے پاس آکر عورتوں کی سختیوں اور زیادتیوں کی شکایت کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا بھائی ہم بھی اسی میں مبتلا ہیں۔ یہاں تک کہ جب میں اینٹلی بی سے قضائے حاجت کرنا چاہتا ہوں تو وہ مجھ سے کہتی ہے تو بی فلان کی جوان لڑکیوں کو جا کر دیکھتا ہے۔ حضرت عبدالمتین مسعود نے ان سے کہا کیا آپ کو یہ بات پس نہیں کہ حضرت ابراہیم نے سارہ کی عادت کی جناب باری میں شکایت کی۔ وہاں سے حکم ہوا کہ عورت کی پیدائش پسلی سے ہے۔ جب تک اُس کے دین میں کوئی خرابی تمہیں معلوم نہ ہو تو جس حال پر وہ ہے اُس سے موافقت کرو۔

ابن جریر عکرمہ بن خالد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کے بیٹے کنگھی کئے اچھے کپڑے پہنے ہوئے باپ کے پاس آئے۔ آپ نے انہیں درہ سے مارا یہاں تک کہ وہ روئے لگے۔ حفصہ بولیں کہ آپ نے اسے کیوں مارا۔ فرمایا میں نے دیکھا کہ اُس کے نفس نے اُسے غرور اور عجب میں ڈالا۔ سو میں نے چاہا کہ اُس کے نفس کو اُس کے روبرو حقیر کر دوں۔

ابن جریر نضر سے اور وہ لیث بن ابی سلیم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا نہ تو کسی کا نام حکم رکھو نہ ابا حکم۔ کیونکہ حکم تو اللہ ہی ہے۔ اور راستہ کا نام سگہ نہ رکھو۔
یہ بھی شعب الایمان میں تھا کہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کاش میں

کسی رستہ کے کنارے پر درخت ہوتا کہ مجھ پر اونٹ گزرتا اور پکار کر اپنے مومنہ میں داخل کرتا۔ پھر مجھے چبا کر منہم کر لیتا۔ اور میگنی بنا کر نکال دیتا۔ اور میں آدمی نہ ہوتا۔ پس حضرت عمر نے فرمایا۔ کاش میں اپنے لوگوں کا منہ دھا ہوتا۔ کہ وہ مجھے ذبح کرتے۔ جب تک کہ چاہتے۔ یہاں تک کہ جب میں بہت ذبح ہوتا اور دیکھنے والے مجھے بہت پسند کرتے تو میرے لوگ ان بہانوں کے لئے مجھے ذبح کر ڈالتے۔ پھر اس میں سے ایک حصہ تو بھون لیتے اور ایک حصہ کوٹ کر سکھا دیتے۔ پھر مجھے خوب چبا چبا کر کھاتے۔ اور میں آدمی نہ ہوتا۔

ابن عساکر ابو البختری سے روایت کرتے کہ حضرت عمر بن الخطاب منبر پر خطبہ پڑھ رہے تھے حضرت حسین بن علی نے کھڑے ہو کر کہا اسے عمر میرے باپ کے منبر سے اترے۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ منبر آپ ہی کے والد کا ہے۔ میرے باپ کا نہیں۔ مگر یہ بات تمہیں کس نے سکھائی۔ حضرت علی نے کھڑے ہو کر فرمایا اسے اس بات کا کسی نے حکم نہیں کیا۔ (حسین کی طرف اشارہ کر کے) فرمایا۔ بھلا اور یوقائیں تجھے ضرور سزا دوں گا۔ آپ نے فرمایا۔ میرے بھتیجے کو نہ مارنا اس نے سچ تو کہا ہے۔ منبر اس کے والد ہی کا ہے۔

خطیب نے اپنی رواۃ میں مالک سے اور وہ ابن شہاب سے بطریق واسطہ سعید بن المسیب سے روایت کرتے ہیں۔ کہ حضرت عمر بن الخطاب نے اور حضرت عثمان بن عفان نے میں کسی مسئلہ میں ایسا جھگڑا ہوتا تھا کہ دیکھنے والے کہتے تھے۔ اب ان دونوں کا کبھی ملاپ نہ ہوگا۔ وہ دونوں اس مجلس سے جدا نہ ہوتے تھے مگر عمرہ اور اچھی خصلت کے ساتھ۔

ابن سعد حسن سے روایت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت عمرؓ نے جو خطبہ پڑھا اُس میں
 حمد و ثنا کے بعد فرمایا۔ اے لوگو میرا امتحان اور آزمائش تمہارے ساتھ اور تمہاری آزمائش
 میرے ساتھ کی گئی ہے۔ میں تم میں اپنے یار حضرت ابو بکرؓ کے بعد خلیفہ بنایا گیا ہوں۔ سو جو
 کوئی ہمارے سامنے ہے ہم اُس سے اپنی ذات کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ اور جو ہم سے غائب
 ہے۔ اُس پر اہل قوت اور امانت کو ولی مقرر کریں گے۔ جو کوئی بھلے کام کرے گا۔ ہم اُس کے
 ساتھ بھلائی زیادہ کریں گے۔ اور جو بُرائی سے پیش آئے گا اُسے سزا دیں گے۔ اور اقدم
 تم کو بخشے۔

سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے سنہ محرم میں حساب کے کاغذات جمع کئے۔
 ابن سعد جیر بن الحویث سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے خطاب نے حساب کے کاغذات
 کے جمع کرنے میں مسلمانوں سے مشورہ کیا۔ حضرت علیؓ نے فرمایا جس قدر مال آپ کے پاس
 جمع ہوا کرے ہر سال بانٹ دیا کریں اور اُس میں سے کچھ باقی نہ رکھیں۔ حضرت عثمانؓ
 نے فرمایا۔ میں مال میں وہ کثرت دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو سمالے گا۔ اور جب تک یہ بات
 نہ معلوم ہو کہ کس نے لیا اور کس نے نہیں لیا۔ آدمی شمار میں نہ آئیں گے۔ میں تو اس بات
 کے مشتبه ہونے سے ڈرتا ہوں۔ ولید بن شام بن مغیرہ بولے اے امیر المومنین میں
 شام سے آیا ہوں وہاں کے بادشاہوں کو میں نے دیکھا کہ لشکر اور کاغذات جمع کئے ہیں
 آپ بھی لشکر مرتب کریں۔ اور کاغذات جمع فرمادیں۔ حضرت عمرؓ نے ولید کے قول پر

عمل کے عقیل بن ابی طالب اور محمد بن نوفل اور جبریل بن مطعم کو جو قریش کا خوب نسب جانتے تھے۔ بلایا اور فرمایا لوگوں کو ان کے مراتب کے موافق لکھو سو انہوں نے لکھنا شروع کیا اور بنی ہاشم کے ساتھ ابتدا کی۔ پھر ان کے پیچھے حضرت ابو بکرؓ اور ان کی قوم کو درج کتابت کیا۔ اس کے بعد خلافت کے لحاظ سے حضرت عمرؓ اور ان کی قوم کو لکھا۔ جب حضرت عمرؓ نے اسے دیکھا تو زیاد بنی سلم کے اہل قرابت مجھ پر مقدم کرو۔ اسی اسی طرح پھر ان کو مقدم جو قریب زائد ہیں حتیٰ کہ عمر کو اس جگہ رکھو جہاں اسے اللہ نے رکھا ہے۔

عبدالرحمن بن ابی بکرؓ کہتے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا یہ خلافت بدیوں میں رہے گی۔ جیتک ایک بھی ان میں باقی رہے۔ پھر اہل اعد میں رہے گی۔ جیتک ایک بھی ان میں باقی رہے اور اس خلافت میں نہ تو طلیق اور ولد طلیق کا حصہ ہے۔ نہ ان لوگوں کا جو فتح مکہ میں مسلمان ہوئے۔

شہاد بن اوس کعب سے روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا۔ جب ہم اسے یاد کرتے تو حضرت عمرؓ یاد آتے۔ اور جب حضرت عمرؓ کا ذکر کرتے اسے یاد کرتے۔ بادشاہ کے پہلو میں ایک نبی تھا۔ جس پر وحی آتی تھی۔ ایک دفعہ اللہ نے اپنے نبی کو وحی بھیجی کہ بادشاہ سے کہو اگر اپنا کوئی ولیعہد کرنا ہے کرے۔ اور اپنی وصیت لکھ لے۔ کیونکہ تو تین دن بعد مر جائے گا۔ نبی نے اس امر کی بادشاہ کو اطلاع کر دی۔ سو جب تیسرا دن ہوا تو بادشاہ اپنے تخت اور دیوار کے درمیان گر پڑا اور اپنے رب کے پاس آکر عرض کرنے لگا۔ بار خدایا اگر تو

جاننا ہے کہ میں ہر حکم میں داد دیتا تھا۔ اور جب کاموں میں اختلاف ہوتا تھا تو میں تیری مرضی اور
 اور ہدایت کی پیروی کرتا اور میں ایسے ایسے کام بجالاتا تھا۔ سو اس قدر میری عمر مجھے پھیر دے
 کہ میرے بچے بڑے اور میری اُمت بڑھ جاوے سو اللہ نے اپنے نبی کو وحی بھیجی کہ بادشاہ نے
 ایسا ایسا کہا اور سچ کہا۔ میں نے اُس کی عمر میں پندرہ سال اور زیادہ کئے۔ اس میں اُس کی اولاد
 بڑی اور اُمت پھیل جاوے گی۔ جب حضرت عمرؓ زخمی ہوئے تو کعب نے کہا بخدا اگر عمرؓ بھی
 اپنی عمر کی زیادتی میں اپنے رب سے التجا کریں تو ضرور خدا نے تعالیٰ آپ کو ایک مدت تک باقی
 رکھے۔ آپ کو جب اس امر کی اطلاع ہوئی۔ زمانے لگے اے اللہ مجھے اس حال میں اٹھائے کہ
 میں عاجز اور ملامت کیا گیا نہ ہوں۔

ابن سعد سلیمان بن یسار سے روایت کرتے ہیں کہ جنوں نے حضرت عمرؓ کی وفات پر فوج کیا۔
 ابن عباس کہتے ہیں کہ عباس نے کہا میں نے حضرت عمرؓ کی وفات کے بعد ایک برس تک اللہ
 دعا کی کہ حضرت عمرؓ کو مجھے خواب میں دکھائے۔ سو میں نے ایک سال کے بعد آپ کو اس حال
 میں دیکھا کہ اپنے ماتھے سے پسینہ پوچھ رہے ہیں۔ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر سے
 فدا ہوں اے امیر المومنین آپ کا کیا حال ہے۔ فرمایا میں اس وقت حساب سے فارغ ہوا ہوں
 کریب تھا کہ حضرت عمرؓ کی (عمار کی چھت) گروہ آئی۔ اگر اپنے رب کو شفیق و مہربان نہ پاتا۔

سوطا میں آیا ہے کہ تولد بنت حکیم حضرت عمرؓ کے پاس آکر کہنے لگیں کہ ربیعہ بن امیر نے ایک بولہ مور سے
 کیا ہے اور وہ ربیعہ حاملہ ہے۔ حضرت عمرؓ گھبرا کر چادر گھسیٹتے ہوئے باہر نکلے اور فرمایا یہ مندہ ہے۔ اگر میں اس کی

پہلے سے مالعت کر دیتا تو ضرور اسے رجم کرتا۔ اور حضرت عمرؓ کے پاس ایک ایسے شخص کا تذکرہ جس میں ایک مرد اور ایک عورت کے سوا دوسرا گواہ نہ تھا۔ آپ نے فرمایا یہ چودی چھپے کا نواح ہے۔ میں اسے جائز نہیں رکھتا۔ اگر میں پہلے سے اسے بیان کر چکا ہوتا تو ضرور رجم کرتا۔

آحمد اپنی سند میں صحیح سند کے ساتھ حضرت علیؓ کو ممدوحہ سے روایت کرتے ہیں۔ کہ میں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے پاس تھا۔ یکا یک حضرت ابو بکرؓ و حضرت عمرؓ آئے۔ حضرت نے فرمایا اے علیؓ بنیوں اور پیغمبروں کے بعد یہ دو نوا دھیرا اور جوان جنتیوں کے سردار ہیں۔ حضرت عمرؓ ذیچہ کے چار دن باقی رہے تھے جو زخمی ہوئے۔ اور وہ بدھ کا دن تھا۔ اور اتوار کے دن محرم کی چاند رات کو دفن ہوئے۔ آپ کی عمر تریٹھ یا اکتھ یا چھیٹھ برس کی تھی اور صہیب نے مسجد میں آپ پر نماز پڑھی۔ نسائی کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی ہر کفنی بالموت واعظا کے نقش سے آراستہ تھی۔

ترمذی میں جابرؓ سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکرؓ کو کہا اے بہترین لوگوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ حضرت ابو بکرؓ نے کہا خبردار ہوا اب عمرؓ اگر تم نے مجھے یہ کلمہ کہا ہے تو میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے عمرؓ سے بہتر کسی شخص پر سورج نہیں چمکا۔ یہ حدیث غریب ہے۔

ترمذی میں بریدہ اسلمی سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی جہاد میں تشریف لے گئے۔ سو جب وہاں سے پلٹ کر آئے تو ایک سیاہ لڑکی (صیشیہ تھی یا اس کا رنگ ہی کالا تھا) نے آپ کے

پاس آکر کہا اے رسول اللہ صلعم میں نے نذر مانی تھی کہ اگر خداے تعالیٰ آپ کو تھیاب کر کے بھیجے گا تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی۔ اور گاؤں گی۔ آنحضرت صلعم نے فرمایا اگر تو نے نذر مانی ہے تو دف بجا ورنہ نہیں۔ سو اس لڑکی نے دف بجانا شروع کیا۔ حضرت ابو بکرؓ آئے اور وہ دف ہی بجا رہی تھی۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ آئے اور وہ بجائے گئی۔ پھر حضرت عثمانؓ آئے اور وہ اسی طرح بجائے رہی۔ مگر حضرت عمرؓ کے آتے ہی وہ چھو کر یچوڑوں کے نیچے دف ڈال کر بیٹھ گئی۔ پھر آنحضرت صلعم نے عمرؓ سے فرمایا کہ تم سے شیطان ڈرتا ہے۔ کیونکہ میں بیٹھا رہا اور وہ دف بجائے گئی۔ ابو بکرؓ آئے اور وہ بجائے گئی۔ عثمانؓ آئے اور وہ بجائے گئی۔ علیؓ آئے اور وہ بجائے گئی۔ جب اسے عمرؓ تم آئے تو اس نے دف ڈال دیا۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

ابن ماجہ ابو سعید خدری سے روایت کرتے کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا وہ شخص میری امت میں مرتبہ کے روتے جنت میں بلند مرتبہ ہے۔ ابو سعید کہتے ہیں بخدا ہم نہ جانتے تھے کہ وہ کون شخص ہے۔ مگر حضرت عمر بن الخطابؓ ہی پر ہمارا گمان تھا حتیٰ کہ آپ نے وفات پائی۔ بخاری میں انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم دو پہر ڈھلے نکلے۔ اور ظہر کی نماز پڑھا کر منبر پر کھڑے ہوئے۔ پھر قیامت کا ذکر فرمایا۔ اور فرمایا کہ اس میں بڑے بڑے خوفناک کام ہوں گے۔ اس کے بعد بار بار فرمایا جس شخص کو کسی چیز کے پوچھنے کی آرزو ہو تو وہ پوچھے اس کو ضرور اطلاع دوں گا۔ مگر جب تک کہ میں اس جگہ کھڑا ہوں۔ سو لوگوں سے بہت رونا

شروع کیا۔ پس عبد اللہ بن حذافہ نے کھڑے ہو کر پوچھا۔ میرا باپ کون ہے فرمایا تیرا باپ حذافہ
 پھر حضرت عمرؓ دوزانو بیٹھ کر کہنے لگے۔ ہم اللہ سے اذوئے رب ہونے کے۔ اسلام سے اذوئے
 دین ہونے کے۔ محمدؐ سے اذوئے نبی ہونے کے راضی ہوئے۔ پس آنحضرتؐ چپ ہو گئے۔ پھر فرمایا
 اس وقت اس دیوار کی جانب مجھ پر جنت و دوزخ پیش ہوئے۔ اور میں نے آج جیسی
 کبھی بھلائی برائی نہ دیکھی۔

مسلم میں عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطابؓ کی ایک بیٹی تھیں جن کا نام صبیہ
 تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے ان کا نام جمید رکھا۔
 ابو داؤد میں عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے رفقاء نے حدیث کی کہ ابتدئ
 اسلام میں جب کوئی شخص روزہ افطار کرنے کے بعد کھانا کھانے سے پہلے سو رہتا تو پھر صبح تک
 کھانا نہ کھاتا۔ سو ایک دن حضرت عمرؓ گھر میں آئے اور اپنی بیوی سے صحبت کرنی چاہی۔
 ان کی بی بی نے کہا میں سو چکی ہوں۔ آپ نے گمان کیا کہ وہ یہاں کرتی ہے۔ پس آپ نے
 قصائے حاجت کی۔ اسی طرح ایک اور انصاری نے کھانا کھانا چاہا۔ گھر کے لوگوں نے
 کہا ذرا ٹھیرنا۔ کہ تیرے لئے کچھ کھانا گرم کر لیں۔ پس اسے نیند آگئی۔ صبح کو یہ آیت اتری
 کہ تمہیں روزہ کی رات میں اپنی بی بیوں سے جماع کرنا حلال ہو گیا۔

شرح سنن میں انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا کہ خدا بزرگ و بزر
 نے میری امت میں چار لاکھ آدمی بلا حساب جنت میں داخل کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔

حضرت ابو بکرؓ نے کہا اے رسول خدا اللہ سے بہتے لئے اس میں زیادتی مانگئے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا اور زیادتی اس طرح ہے۔ پس آپ نے دو ٹولپین بنائیں اور انہیں جمع کر کے دکھایا۔ حضرت ابو بکرؓ نے کہا اور بھی زیادہ کیجئے۔ اے رسول خدا آپ نے پھر اسی طرح فرمایا۔ پس حضرت عمرؓ نے کہا اے ابو بکرؓ ہمیں عمل کرنے اور خوف عذاب الہی میں سعی و کوشش کے لئے چھوڑ دیجئے۔ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا تمہارا اس میں کیا نقصان ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے۔ حضرت عمرؓ نے کہا اگر خدا اپنی مخلوق کو جنت میں داخل کرنا چاہے تو ایک ہی کف میں داخل کر دے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ عمرؓ سچ کہتے ہیں۔

موطا میں انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرؓ کو اُس زمانہ میں دیکھا کہ آپ مسلمانوں کے سرواڑھے۔ کہ آپ کے سامنے کچھ روں کا ایک صاع ڈالا جاتا تھا۔ آپ انہیں کھلتے یہاں تک کہ خراب اور سوکھی تک کھا لیتے تھے۔

رزین بن زید بن اسلم سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے پانی مانگا تو آپ کے پاس پانی مشہد ملا ہوا لایا گیا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں یہ پانی نہایت مزہ دار اور پاک ہے لیکن میں خدا سے بزرگ و برتر کو سنتا ہوں کہ اُس نے ایک قوم پر اُن کی خواہشوں کے سبب عیب لگایا۔ اور سب زلزلہ کی ہے۔ چنانچہ فرمایا تم اپنی زندگی ہی میں غم سے اڑا چکے اور اُن لذائذ سے بہرہ مند ہو چکے سو میں ڈرتا ہوں کہ ہمارے نیکیوں کا ثواب اسی عالم میں دیا جاوے۔ پس وہ پانی نہ پیا۔

شعب الایمان میں حضرت عمر بن الخطاب سے روایت ہے کہ آپ ہمیں پڑھنے سے روکتے تھے
 اسے لوگوں کو فروتنی کرو۔ کیونکہ میں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو
 شخص اللہ کی رضا مندی کے لئے لوگوں کے ساتھ فروتنی کرتا ہے۔ اس کا اجر اللہ بے شمار
 ہے۔ گو وہ اپنی نظر میں حقیر ہے۔ مگر لوگوں کی نظروں میں بزرگ و مقرب ہے۔ اور جو کوئی تکبر
 کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ پست کر دیتا ہے۔ سو وہ گرچہ آپ کو بزرگ قدر جانتا ہے۔ لیکن
 لوگوں کی آنکھوں میں اس درجہ حقیر ہو جاتا ہے کہ کتے اور سورت سے بھی زیادہ اس کے نزدیک
 ذلیل و خوار شمار کیا جاتا ہے۔

بہرائی اوسط میں حضرت ابو بکر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ
 الخطاب سے اسلام کی بنیاد مضبوط کر۔ دینی حضرت ابو بکر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی
 نے فرمایا اگر میں تم میں پیغمبری کے ساتھ نہ بھیجا جاتا تو حضرت عمر بن الخطاب سے موت ہوتے۔
 مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت عمر ایک رات لگاتے تھے عو اللہ تعالیٰ آپ کی رات کے مطابق قرآن
 اتارنا تھا۔ ہوا میں نافع عبد اللہ بن عمر کے غلام سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب نے
 نے اپنے تھیلہ اردوں کو لکھا تمہاری سب خدمتوں میں میرے نزدیک نماز بہت ضروری
 امر ہے۔ جس نے نماز کے مسئلہ یاد رکھے اور اسے اس کے وقت پڑھا تو اس نے اپنے
 دین کی حفاظت کی۔ اور جس نے نماز ہی ضائع کی وہ نماز کے سوا تمام خدمتیں تلف کرے گا۔
 پھر لکھا تمہاری نماز ایسے وقت پڑھو کہ سورج ڈھل کر آدمی کے ایک ہاتھ پر اترتا ہے۔

یہاں تک کہ ہر چیز کا ایک مثل سایہ ہو۔ اور عصر کی نماز ایسے وقت پڑھو کہ سورج بلند اور صاف
 ہو۔ ندی کا وہ حصہ تک اس میں نہ آنے پائے۔ اور اس کے بعد اس قدر وقت باقی رہے
 کہ اونٹنی سوار دو فرسخ یا تین فرسخ سورج ڈوبنے سے پہلے پہنچ جائے۔ اور مغرب کی نماز
 سورج ڈوبنے پڑھو۔ اور عشا کی نماز شفق کے غائب ہونے سے تہائی رات تک پڑھو۔ اور جو
 شخص عشا کی نماز سے پہلے سو جائے تو خدا کرے اس کی آنکھ نہ لگے۔ تین دفعہ یہ کلمہ فرمایا۔

اور صبح کی نماز ایسے وقت پڑھو کہ تارے صاف اور گھن دار ہوں۔

مولیٰ میں یحییٰ بن عبدالرحمن بن عاصب سے روایت ہے کہ انہوں نے رشتہ سواروں میں حضرت
 عمر بن الخطابؓ کے ساتھ عمرہ کیا۔ جن میں عمرو بن العاص بھی تھے۔ اور عمر بن الخطابؓ پانی کے
 قریب رات کو راستہ ہی میں اتر پڑے۔ صبح کا وقت قریب ہی تھا کہ آپ کو نہانے کی حاجت
 ہوئی اور فاقہ میں پانی نہ تھا۔ تب حضرت عمرؓ سوار ہوئے یہاں تک کہ پانی کے پاس آکر جہاں
 جہاں کپڑے پر نجاست احتلام کا اثر تھا دھونے لگے۔ اتنے میں خوب روشنی ہو گئی۔ پس
 عمرو بن العاص نے حضرت عمر بن الخطابؓ سے کہا اب تو جمع ہو گئی ہمارے پاس کپڑے ہیں۔
 آپ اس کپڑے کو رہنے دیجئے دھو ڈالا جائے گا۔ اور ہمارے کپڑوں سے نماز پڑھ لیجئے
 تب حضرت عمرؓ نے کہا اے عمرو بن العاصؓ تعجب کی بات ہے۔ اگر تم نے کپڑے پائے
 کیا سب لوگوں کے پاس کئی کپڑے ہو سکتے ہیں۔ والد اگر میں یہ کام کروں تو لوگوں
 کے لئے سنت ہو جاوے۔ بلکہ جہاں نجاست معلوم ہوگی میں اس کپڑے کو دھو ڈالتا ہوں

اور جہاں یہ معلوم ہوگی پانی چھڑک دوں گا۔
 موطا میں سعید بن المسیب سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطابؓ کے پاس ایک مسلمان اور ایک
 یہودی لڑتے جھگڑتے آئے۔ سو حضرت عمرؓ نے یہودی کی جانب حق دیکھا۔ اور اسی کے موافق
 فیصلہ لکھا۔ یہودی نے آپؐ سے کہا واللہ تم نے سچا فیصلہ کیا۔ حضرت عمرؓ نے اسے ایک
 کوڑا مارا۔ (کیونکہ انہیں کسی کی خوشاد بڑی معلوم ہوتی تھی)۔ اور فرمایا تجھے کیونکہ معلوم ہوا۔
 یہودی نے جواب دیا ہم اپنی کتابوں میں پاتے ہیں کہ جو قاضی سچا فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے
 دائیں اور بائیں دو فرشتے ہوتے ہیں کہ وہ سیدھی راہ بتاتے ہیں اور حق فیصلہ کی
 توفیق دیتے ہیں۔ جب وہ قاضی حق پر جا رہے مگر یہ وہ حق کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ فرشتے
 بھی اسے چھوڑ کر آسمان پر چڑھ جاتے ہیں۔
 موطا میں سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ اپنے ہاں باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمرؓ
 نے دو دھوپیا اور وہ ان کو بہت بھلا معلوم ہوا۔ جس نے آپؐ کو اوہ دو دھوپیا پکھا اس سے
 دریافت کیا کہ یہ دو دھوپیا کہاں سے آیا۔ اس شخص نے حضرت عمرؓ کو خبر دی کہ میں ایک پانی پر
 گیا اور اس نے اس پانی کا نام بھی لیا۔ وہاں زکوٰۃ کے اونٹوں میں سے کئی اونٹ پانی پی
 رہے تھے۔ سو لوگوں نے ان اونٹوں کا دو دھوپیا چھوڑ دیا۔ میں نے اسے اپنے شکم
 میں رکھ لیا۔ سو وہ یہی دو دھوپیا تھا۔ جو آپؐ سے پیا۔ تب حضرت عمر بن الخطابؓ نے اپنا ہاتھ وال
 کی راہ سے سب دو دھوپیا نکال ڈالا۔

ایک روایت میں حضرت عائشہؓ اور حضرت علی ابن ابی طالبؓ سے آیا ہے کہ حضرت عمرؓ کا نام فاروقی
اس لئے رکھا کہ انھوں نے جھوٹ اور سچ میں جدائی ڈالی۔ طبرانی اور عالم ابن مسعودؓ سے روایت
کرتے ہیں کہ اگر حضرت عمرؓ کا علم ترازو کے ایک پلہ میں۔ اور تمام زندہ زمین والوں کا علم دوسرے
پلہ میں رکھا جائے تو حضرت عمرؓ کا پلہ ان تمام کے پلہ پر بھاری ہو گا۔ بلاشبہ صحابہ رسولؓ
جانتے تھے کہ حضرت عمرؓ نو عشر علم کا حصہ لے گئے۔

بخاری میں ابن شہاب سے روایت ہے کہ ثعلبہ بن مالک کہتے ہیں۔ حضرت عمر بن الخطابؓ نے
مدینہ کی عورتوں کو چادریں تقسیم کیں۔ اور ایک عمدہ خوبصورت چادر آپ کے پاس باقی رہ گئی۔
سو حضرت عمرؓ سے ان کے بعض مصاحبوں نے کہا اے امیر المومنین یہ چادر بنت رسول اللہؐ
کو دیدیجئے۔ جو آپ کے نکاح میں ہیں۔ اور اس سے ان کی سرادق کا ثوم بنت علیؓ تھیں۔ حضرت
عمرؓ نے فرمایا ام سلیط ان سے ناامید ہوا ہے۔ اور ام سلیط انصار کی عورتوں میں سے وہ ہیں
جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا وہ احد کے دن ہمارے لیے
مشکیں بیٹی تھیں۔

اسلم میں ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے تھے اور ہمارے ساتھ حضرت
ابوبکرؓ و حضرت عمرؓ بھی ایک جماعت میں بیٹھے تھے۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے اٹھ کر
کہیں تشریف لے گئے۔ اور دیر تک ہمارے پاس نہ آئے۔ ہمیں خوف ہوا کہ مبادا آپ کچھ ایسا ہو چکا
ہو جس سے ہم نہیں بیٹھے رہیں۔ سو ہم گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ اور سب سے پہلے میں ہی گھبرایا پھر میں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے نکلا۔ یہاں تک کہ انصار کے باغ میں جو بنی بخار کا تھا پہنچا۔ اور اس کے
 دروازہ پائے کے لئے باغ کے ارد گرد پھرنے لگا۔ سو میں نے اس کا دروازہ نہ پایا۔ یہاں ایک نالی
 باغ کے اندر باہر کے کنوے سے آتی تھی (راوی کہتا ہے) ربيع نالی کا نام ہے (ابو ہریرہ کہتے ہیں)
 پھر میں سمٹ کر اس نالی میں گھسا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ حضرت نے کہا ابو ہریرہ سے
 میں بولا۔ جی ہاں اسے رسول خدا فرمایا۔ تیرا کیا حال ہے۔ میں نے عرض کیا۔ آپ ہم لوگوں میں
 بیٹھے تھے پھر کھڑے ہو گئے۔ اور بہت دیر لگائی سو ہم ڈھونڈنے کے لیے آیا آپ ہمارے سوا ایک
 ایسا پہنچائے جاویں۔ یہ ہم سب کے سب گھبرا گئے اور سب سے پہلے مجھے کو گھبراٹ ہوئی۔ پھر
 میں اس باغ میں آیا اور لومڑی کی طرح سمٹ کر یہاں آن پہنچا۔ اور یہ لوگ میرے پیچھے
 ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں جوتیاں مجھے دے کر فرمایا اے ابو ہریرہ یہ میری دونوں
 جوتیاں لے جا۔ اور اس باغ کے پیچھے جو کوئی آدمی تجھ سے ملے اور اس بات کو اپنی گواہی دے کہ
 خدا کے سوا اور کوئی معبود نہیں مگر اس پر اس کا دل یقین کرنے والا ہو تو اسے بہشت کی
 خوشخبری دے۔ سو سب سے پہلے میں حضرت عمرؓ سے ملا۔ انہوں نے پوچھا اے ابو ہریرہ
 یہ کس نی جوتیاں ہیں۔ میں نے کہا یہ دونوں جوتیاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ مجھے ان دونوں کے
 ساتھ بھیجا ہے کہ جو کوئی تجھ سے ملے اور اس بات کی گواہی دے کہ خدا کے سوا کوئی معبود
 نہیں۔ مگر اس پر اس کا دل یقین کرنے والا ہو تو اسے بہشت کی بشارت دوں۔ حضرت عمرؓ
 نے یہ سن کر میرے سینے پر ایسا ہاتھ مارا کہ میں چوتروں کے بل گر پڑا۔ پھر فرمایا اے ابو ہریرہؓ

پھر جا سو میں آنحضرت صلعم کے پاس پھر آیا اور رو کر حمایت چاہی۔ اتنے میں حضرت عمرؓ بھی میرے
 پیچھے پیچھے اور قدم بقدم آئے۔ حضرت صلعم نے مجھ سے فرمایا اے ابو ہریرہؓ تجھے کیا ہوا۔ میں نے
 عرض کی کہ میں حضرت عمرؓ سے ملا۔ اور جس چیز کے ساتھ آپ نے مجھے بھیجا تھا میں نے حضرت عمرؓ
 کو اس کی خبر دی۔ سو حضرت عمرؓ نے میرے سینے میں ایسا مارا اور وہ ہکا دیا کہ میں چوڑھویں
 بن گیا۔ اور کہا پھر جا پھر رسول اللہ صلعم نے فرمایا اے عمرؓ اس تمہارے کرنے پر کیا پیر
 ہوئی۔ کہا اے رسولؐ نہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ کیا ابو ہریرہؓ کو اپنی جوتیاں
 آپ نے اس واسطے بھیجا تھا کہ جو کوئی اس سے ملے اور اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ خدا کے سوا
 کوئی معبود نہیں اور وہ یہ بات یقین قلب کے ساتھ کہے تو اسے بہشت کی نو شجرہ دیں گے۔
 حضرت نے فرمایا ہاں۔ حضرت عمرؓ نے کہا آپ ایسا نہ کیجئے۔ کیونکہ مجھے خوف ہے کہ لوگ
 اس پر بھروسہ کر لیں گے۔ آپ انہیں چھوڑ دیکئے کہ وہ عمل کریں تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ
 والسلام نے فرمایا اب انہیں چھوڑ دے۔

ابوداؤد میں حضرت عمرؓ بن الخطاب سے روایت ہے کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو
 حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ اہی شراب کے بارے میں ہمارے لئے ثانی اور کافی بیان کریں وہ آیت
 جو سورہ بقرہ میں ہے یسئلونک عن الخمر والمیسر نازل ہوئی۔ یعنی اسے محمدؐ تم سے جوئے اور
 شراب کی بابت سوال کرتے ہیں سو تم کہو ان دونوں میں کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے نزول
 کے بعد حضرت عمرؓ بلائے گئے۔ اور یہ آیت ان پر پڑھی گئی۔ آپ کو اس سے پوری تسفی نہ ہوئی۔

دوبارہ کہا خداوند شریب میں ثانی بیان فرمایا۔ پھر سورہ نسا کی آیت یا ایہا الذین امنوا
لا تقرأوا الصلوة الا اتری سو حضرت رسول کریم صلعم کا منادی ندا کرتا تھا۔ جب نماز کی اقامت
پڑھی جاتی تھی کہ مست آدمی نماز کے نزدیک نہ آئے اس وقت بھی حضرت عمرؓ بلائے گئے اور
ان پر یہ آیت پڑھی گئی۔ آپ کی پھر بھی تسکین نہ ہوئی۔ اور وہی لفظ فرمایا کہ اسے بار بار شریب کے
بارہ میں ہارے لئے کافی فیصلہ فرمایا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ فہل انتم منصفون۔ یعنی
کیا تم باز رہنے والے ہو۔ تب حضرت عمرؓ نے فرمایا ہم باز رہے۔

مناقب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

تھے امیر المومنین حضرت عمرؓ	عاصیؓ اسلام و مفتاحِ ظفر
تھے خلیفہ ثانی حضرت کے عزیز	نام تامی ان کا تھا حضرت عمرؓ
یہ شجاعت آپ سے ظاہر ہوئی	کرد یا کفار کو زیر و زبر
تھے عمر وہ نامور غیرت پسند	ان سے شیطانوں کو بھی ہوتا تھا
بارہا حضرت علیؓ فرماتے تھے	بعد از صدیق ہیں افضل عمرؓ
مرد صالح تھے وہی پر ہیزگار	یعنے مقبول خدا حضرت عمرؓ
حضرت بو بکرؓ فرماتے تھے یوں	کُل زمین پر ہیں مجھے پیار عمرؓ
انتہا اللہ قوت دین کا فروغ	جس سے پھٹ جاتا دشمن کا جگر
تھے اُحد میں بھی عمرؓ ثابت قدم	جب پھیلنے لگ گئے تھے سید

قبر میں سے جو قرین مصطفیٰ

جنتی حضرت عمرؓ ہیں بالیقین

یہ بھی ہے قول محمد مصطفیٰ

بعد میرے گرنی ہوتا کوئی

اے خدا پرست مصطفیٰ

جنتی کیوں کرتے ہو گا وہ بشر

ہے یہی فرمودہ خیر البشر

غور سے سن اے اخی مقدر

تو نبی ہوتے یہی حضرت عمرؓ

عبد کی حالت پہ اپنا رحم کر

ترمذی میں حذیفہ بن یحییٰ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم

نے فرمایا کہ میری زندگی اور میری بقا آپس کتنی مدت رہے گی۔ سو تم میرے پیچھے دو شخصوں کا

اقتدار کرنا۔ ایک ابو بکرؓ اور دوسرے عمرؓ کا۔

طبرانی اوسط میں ابو نعیم علیہ میں ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلعم نے فرمایا

اللہ تعالیٰ نے چار شخصوں سے میری مدد کی۔ دو تو آسمان والوں میں سے ہیں۔ جبرائیل و

میکائیل اور دو زمین والوں میں سے۔ ابو بکرؓ و عمرؓ۔

ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی صلعم ایک دن نخل کے مسجد میں

تشریف لائے۔ اور حضرت ابو بکرؓ و حضرت عمرؓ آپ کے دائیں اور بائیں تھے۔ اور حضرتؓ

علیہ السلام ان دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ پس فرمایا کہ ہم قیامت کے دن قبروں

سے یوں ہی اٹھائے جاویں گے۔

ترمذی میں عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا۔ تم پر جنتیوں

میں سے ایک شخص آتا ہے۔ اتنے میں حضرت ابو بکرؓ آتے۔ پھر فرمایا عتیدوں میں سے ایک اور شخص تمہارے پاس آتا ہے۔ اتنے میں حضرت عمرؓ آتے۔ پھر فرمایا یہی دو نوختیوں کے سردار ہیں۔

شاہ ولی اللہ صاحبؒ محدث دہلوی ازالۃ الخلفاء میں حضرت علیؓ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت

علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلامؐ

نبویؐ کے خواب میں تشریف فرما ہیں کہ ایک حبشی عورت حضرت کی خدمت میں کچھ کھجوریں لائی،

حضرت علیہ السلام نے اس حبشیہ عورت سے وہ کھجوریں لیکر مجھے فرمایا اسے علیؓ کو کھجور کھانے کا

میں نے عرض کیا ناں۔ آنحضرتؐ نے کھجور کا ایک دانہ مجھ کو مرحمت فرمایا۔ پھر دریافت فرمایا کہ

اسے علیؓ اور کھائے گا۔ میں نے کہا ناں۔ پھر ایک اور دانہ مجھ کو دیا۔ اس کے بعد باقی کھجوریں

باقی تمام اصحابوں میں تقسیم کر دیں۔ صبح کو میں نے مسجد نبویؐ میں جا کر حضرت عمرؓ کے پیچھے نماز

پڑھی۔ نماز کے بعد حضرت عمرؓ خواب میں بیٹھے تھے کہ وہی حبشانی حضرت عمرؓ کی خدمت میں

کھجوریں لائی۔ حضرت عمرؓ نے مجھ سے فرمایا کہ اسے علیؓ کو کھجور کھانے کا۔ میں نے کہا ناں۔ حضرت

عمرؓ نے مجھ کو کھجور کا ایک دانہ دیا۔ پھر فرمایا اور کھائے گا۔ میں نے کہا ناں۔ پھر ایک دانہ اور

دیا۔ میں نے کہا اسے عمرؓ ایک اور دانہ بھی مجھ کو دے تو حضرت عمرؓ نے جواب دیا کیا یاد

نہیں کہ حضرت علیہ السلام نے آپ کو دو دانہ دیئے تھے۔ اگر وہ زیادہ دیتے تو میں بھی زیادہ

دیتا۔ پھر باقی کھجوریں باقی تمام اصحابوں میں تقسیم کر دیں۔

حجاج تہمی سے روایت ہے حضرت صلعم نے فرمایا۔ جسے میں دیکھوں کہ ابوبکرؓ اور عمرؓ کو برائی کے ساتھ یاد کرتا ہے تو وہ اسلام کو گرا دینے کا ارادہ کرتا ہے۔ سالم بن ابی حفصہ کہتے ہیں کہ میں ابو حفصہؓ نے حجرات کے پاس مرتے وقت گنا کہ وہ فرماتے تھے۔ خداوند! میں حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کو دوست رکھتا ہوں۔ اسے اللہ میرے دل میں اگر اس کے سوا کوئی اور بات ہو۔ تو قیامت کے دن حجرت علیؓ وآلہ و اصحابہ وسلم کی شفاعت میرے نصیب نہ کیجیو۔

حضرت انسؓ حضرت جابر سے کہتے ہیں کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ ابوبکرؓ و عمرؓ کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ اور ان کی دشمنی کفر کی نشانی ہے۔

مناقب حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما

مصنف ابو عبد اللہ حاجی محمد عبد السبحان عبد بہاول پوری۔ مولف کتاب ہذا۔

<p>پیارے مصطفیٰ کے تھے ابوبکرؓ و عمرؓ دونوں یہ مہدم اور مونس تھے ابوبکرؓ و عمرؓ دونوں وقادری میں ثابت تھے ابوبکرؓ و عمرؓ دونوں اسی باعث بنے بہتر ابوبکرؓ و عمرؓ دونوں توسر داران کے یہ ہیں ابوبکرؓ و عمرؓ دونوں نہ ہوں پیارے جسے جان ابوبکرؓ و عمرؓ دونوں پیارے ہوں گے جس کو یہ ابوبکرؓ و عمرؓ دونوں</p>	<p>خدا کے خاص پیارے تھے ابوبکرؓ و عمرؓ دونوں حبیبِ کبریٰ کے پیشبر خاص ہر دم تھے دل و جاں اور مال اپنے تصدق کرتے رہتے تھے لقب صدیق اور فاروق حضرت سے ملے ان کو سچی پاک کی امت سے جو جنت میں جائیں گے اسی کو خالی ایمان سے سمجھ لو تم مسلمانو علامت ہے یہ ایمان کی کہ ہوگا بس وہی مومن</p>
--	--

وَمَا كُنَّا حَضْرَتًا بَاقِرِيًّا تَحِي دَقْتِ جَانِ نَدَانِ
 مُحَمَّدٍ كِي شَفَاعَتِ كَا هِيں مِيں سَتَحَقُّ هَرِ كَرِ
 عَلِيٌّ زَمَانَتِي نَحْنُ بَعْدَ ذِيهِ اَفْضَلُ هِيں مِيں
 نَدِيَا مِيں نَدِ عَقْبِي مِيں كُوِي مَهْسَرِ هُوَا اِنِ كَا
 خَدَانِي اَيْتِ لَيْسَتْ خَلْفِنِ كِي بَشَارَتِ هِي
 لِيَا قَتِ اَوْرِ شِجَاعَتِ سِي خَدَا كُو كَرِ دِيَا رَا ضِي
 خَدَا رَا ضِي كَرِي كَا دِنِ قِيَا مَتِ كِي يِهْ وَا هِ قَسْمَتِ
 فَضِي لَتِ كِي دَلِيْلِ اِسِي سِي بَهْلَا اَوْرِ مَكْنِ اِي سِي
 نَبِيٌّ ذِيَا چَكِي هِيں حَشْرِي مِيں اَللّٰهُ كِي اَكِي
 اِكْرِ حَضْرَتِ هَمَارِي چَانْدَرُو شِنِ هِيں تُو كِيَا هَكِي
 خَدَا يَا عِبْدَا عَامِي پَرِ كُشَا رَحْمَتِ كِي بَرِ سَادِ كِي

مجھے سب سے پیارے ہیں ابو بکر و عمر دونوں
 اگر پیارے نہ ہوں چھکو ابو بکر و عمر دونوں
 نبی کے بعد افضل ہیں ابو بکر و عمر دونوں
 کہ بعد از انبیاء ہیں یہ ابو بکر و عمر دونوں
 خلیفہ ہو گئے یعنی ابو بکر و عمر دونوں
 اسی باعث پیارے ہیں ابو بکر و عمر دونوں
 مراتب پا گئے کیسے ابو بکر و عمر دونوں
 میں اب بھی قرب حضرت ابو بکر و عمر دونوں
 میرے ہمراہ جائیں گے ابو بکر و عمر دونوں
 ہدایت کے ستارے ہیں ابو بکر و عمر دونوں
 وسیلہ لایا ہے یہ بھی ابو بکر و عمر دونوں

فضائل ابو عبد اللہ ذوالنورین حضرت عثمان
 ابن عفان الاموی القرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

اللہ تعالیٰ غروبِ جل کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لئے پیغمبرِ مبعوث فرمایا
 اور سب میں اخیر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کو ساتھ آیاتِ بیانات
 قرآن مجید فرقان حمید کے بھیجا جنہوں نے احکام الہی کی تبلیغ کما حقہ فرما کر اپنے خداوند تعالیٰ

کو بہت اچھی طرح رضا مند کیا۔ اور بعد حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے چار خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد دیگرے مقرر ہوئے۔ جنہوں نے دین اسلام کی جڑوں کو ساتھ مشیت و نفرت پروردگار کے نہایت مضبوط کیا۔ ان چار خلیفوں میں سے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جن کے خلیفہ بنائے جانے کا بیان اس طرح ہے۔ کہ

جب حضرت رسول مقبول صلعم کے خلیفہ ثانی حضرت عمرؓ فوت ہو گئے۔ اور باجائزت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ حضرت عمرؓ کی لاش کو ان کے دو نو بیاروں کے پاس رکھ دیا۔ اور دفن سے فارغ ہو چکے تو وہ قوم جن میں خلافت دائر تھی جمع ہوئے حضرت عبدالرحمنؓ نے کہا ہم چھٹوں آدمی اپنی رائے میں سے تین شخصوں کو سوچ دیں۔ زبیرؓ بولے میں نے اپنا اختیار حضرت علیؓ کو سونپا۔ طلحہؓ نے کہا میں نے حضرت عثمانؓ کو سونپا۔ سعدؓ نے کہا میں نے اپنا اختیار عبدالرحمنؓ کو دیا۔ پھر حضرت عبدالرحمنؓ نے کہا تم دو نو عثمانؓ و علیؓ میں جو شخص بریت ظاہر کرے۔ ہم اس امر کو دوسرے کی طرف مقرر کر دیں گے۔ اللہ اور اسلام اس پر گواہ ہے۔ کہ اپنے اعتقاد میں جو اپنے افضل شخص کو دیکھے راضی ہو جاوے۔ سو حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ دو نو خاموش ہو گئے۔ اس وقت حضرت عبدالرحمنؓ نے کہا تم مجھے اختیار دیتے ہو۔ اور خدا مجھ پر شاہد ہے کہ میں تمہارے افضل شخص کے حق میں قصور کروں گا۔ ان دونوں صاحبوں نے کہا ہاں ہم نے اپنا اختیار تمہیں دیدیا۔ پس حضرت عبدالرحمنؓ نے

ان دونوں میں سے حضرت علیؑ کا ہاتھ پکڑ کر کہا: تم رسول خدا سے قرابت رکھتے ہو۔ اور اسلام میں قدیم ہو۔ خود تم جانتے ہو پس خدا تعالیٰ تم پر شاہد ہے۔ اگر میں تمہیں امیر بناؤں تو تم داد دینا۔ اور انصاف کرنا۔ اگر میں عثمانؓ کو امیر بناؤں تو تم اس کی اطاعت کرنا۔ پھر حضرت عثمانؓ سے خلوت میں وہی باتیں کیں اور جب دونوں سے عہد لے لیا تو کہا اے عثمانؓ اپنا ہاتھ اٹھاؤ۔ سب سے پہلے عبدالرحمنؓ نے حضرت عثمانؓ سے بیعت کی پھر حضرت علیؑ نے پھر گھر والے آئے اور سب نے بیعت کر لی۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ پھر حضرت عثمانؓ کے کوئی دوسرا شخص ایسا معلوم نہیں ہوتا۔ جس نے پیغمبرؐ کی دو صاحبزادیوں سے نکاح کیا ہو۔ اسی وجہ سے انہیں ذوالنورین کہتے ہیں۔ حضرت عثمانؓ نے سابقین اولین اور اول مہاجرین اور ان دس شخصوں میں سے ہیں۔ جن کے واسطے جنت کی بشارت دی گئی۔ اور ان چھ شخصوں میں سے ہیں جن سے رسول خدا صلعم مرتے دم تک راضی تھے۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ نے تمام صحابہؓ سے حج کے مناسک زیادہ جانتے تھے اور ان کے بعد ابن عمرؓ۔

ابن عساکر کہتے ہیں کہ حضرت علیؑ بن ابی طالب سے کسی نے حضرت عثمانؓ کا حال دریافت کیا فرمایا وہ ایسا شخص تھا کہ فرشتوں کی جماعت میں ذوالنورین کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ اور رسول خدا کی دو بیٹیوں سے وہ رسول خدا کا داماد تھا۔ حضرت عثمانؓ کی والدہ حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بھوپٹی کی بیٹی تھیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ نے حضرت ابو بکرؓ و حضرت علیؑ رضی اللہ عنہما کے بعد اور سب لوگوں سے پہلے اسلام

لائے۔ حضرت عثمانؓ بہت ہی خوبصورت تھے۔ ابن عساکرؒ اسامہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت نے مجھے ایک رکابی گوشت کی دیکر حضرت عثمانؓ کے گھر بھیجا۔ جب میں گیا۔ تو حضرت زینبؓ بیٹھی تھیں۔ میں کبھی تو حضرت عثمانؓ کے چہرہ کی طرف دیکھتا تھا۔ اور کبھی زینبؓ کی طرف نظر کرتا تھا۔ جب میں واپس آیا تو حضرت علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا۔ تو وہ تو پیر داخل ہوا تھا میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا دو نو شوہری بی بی میں سے تو نے کس کو خوبصورت زیادہ دیکھا ہے۔ میں نے کہا اسے رسول خدا ان دو نو سے میں نے کوئی خوبصورت زیادہ نہیں دیکھا۔

ابو العلیٰ الوصلیٰ انسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں سب سے پہلے اپنے اہل کے ساتھ جس نے حبشہ کی طرف ہجرت کی وہ حضرت عثمانؓ ہیں۔ اُس وقت نبی صلعم نے فرمایا سبحان اللہ حضرت لوطؑ کے بعد جن لوگوں نے اپنے اہل کے ساتھ اللہ کی طرف ہجرت کی ان سب میں عثمانؓ ہیں۔ ابن عدی اور ابن عساکر حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی صلعم نے اپنی صاحبزادی ام کلثومؓ کا حضرت عثمانؓ سے نکاح کیا تو ان سے فرمایا کہ تمہارا خاوند تمام لوگوں میں سے تمہارے دادا حضرت ابراہیم اور تمہارے والد محمدؐ کے ساتھ بہت مشابہ ہیں۔ ابن عساکر عبداللہ بن حرم مازنی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمانؓ کو دیکھا۔ سو میں نے کوئی مرد و عورت ان سے خوبصورت زیادہ کبھی نہیں دیکھا۔ بو سی بن طلحہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ سب لوگوں سے

زائد خوبصورت تھے۔

ابن سعد محمد بن ابراہیم بن الحزب سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے
تو ان کے چچا حکم بن ابی العاص ان کو رسی سے مضبوط باندھ دیا۔ اور کہا تو اپنے آپابی دین سے
منہ موڑ کر نئے دین کی طرف جاتا ہے۔ خدا کی قسم میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ جب تک
تو جس دین پر ہے اسے ترک نہ کرے۔ حضرت عثمان نے فرمایا بخدا میں اس دین کو نہ
چھوڑوں گا۔ نہ کبھی اس سے جدائی اختیار کروں گا۔ چنانچہ جب حکم نے حضرت
عثمان کی دین میں وثوق اور مضبوطی دیکھی تو انہیں چھوڑ دیا۔

ابو اعلیٰ ابن عمرہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا بلاشبہ نشتے عثمان سے ایسی شرم
کرتے ہیں جیسے اللہ اور اس کے رسول کے حق میں شرماتے ہیں۔ ابو داؤد وغیرہ نے عبد اللہ
بن عمرہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلعم نے بدر کے دن کھڑے ہو کر فرمایا۔ عثمان اللہ
اور اس کے رسول کی بدد میں گئے ہیں۔ سو میں ان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ پھر رسول اللہ
نے فتح کے بعد ان کا حصہ لگایا۔ ان کے سوا اور کسی غائب کے لئے حصہ مقرر نہیں کیا۔

ترمذی میں عبد الرحمن بن جناب سے روایت ہے کہ میں آنحضرت صلعم کے پاس اس حالت میں
حاضر ہوا کہ آپ پیش العسرة لشکر تبوک پر خرچ کرنے کی لوگوں کو ترغیب دے رہے تھے۔
یہ سکر عثمان کھڑے ہو گئے اور ہزار اونٹ ان کی جھولوں اور گاؤں سمیت اور ہزار شرفیاء
اپنے ذمہ لگائے۔ کہ اللہ کے راستے میں دوں گا۔ چنانچہ امام احمد عبد الرحمن بن عمرہ سے

روایت کرتے ہیں کہ جس وقت آنحضرت صلعم تبوک کے لشکر کا سامان درست کرتے تھے تو حضرت عثمانؓ ہزار اشرفیاں اپنی آستین میں رکھ کر رسول اللہ صلعم کے پاس آئے۔ اور انہیں حضرت کی گود میں پکھیر دیا۔ پس میں نبی کریم صلعم کو دیکھتا تھا کہ آپ ان اشرفیوں کو اچھالتے اور الٹ پلٹ کر کے فرماتے تھے۔ آج کے دن کے بعد عثمانؓ کو کوئی گناہ ضرر نہ دے گا۔ دو مرتبہ یہ کلمہ فرمایا۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں مرہ بن کعب سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلعم سے فتنوں کا ذکر سنا۔ آپ نے فرمایا وہ فتنے ابھی واقع ہوں گے۔ اتنے میں ایک شخص سر پر کپڑا اور طے ہوئے حضرت کے پاس ہو کر گذرا۔ حضرت نے فرمایا یہ شخص فتنے کے دن سیدھی راہ پر ہوگا۔ میں اس شخص کے دیکھنے کے واسطے کھڑا ہوا کہ دیکھوں وہ کون ہے۔ سو وہ حضرت عثمان بن عفان تھے۔ پھر میں نے حضرت عثمانؓ کا منہ حضرت صلعم کی طرف کر کے عرض کیا کہ وہ شخص یہی ہیں آپ نے فرمایا ہاں۔ ترمذی میں عبدالمدین عمری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ کا ذکر فرما کر حضرت عثمانؓ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ شخص اس فتنہ میں مظلوم مارے جائیں گے۔

ترمذی میں جابر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے پاس ایک جنازہ نماز کے لئے لایا گیا مگر آپ نے اس پر نماز نہ پڑھی۔ لوگوں نے عرض کیا اے رسول خدا ہم نے اس سے پہلے کبھی آپ کو نہیں دیکھا کہ کسی پر نماز نہ پڑھی ہو۔ آپ نے فرمایا نماز نہ پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ شخص عثمانؓ سے بغض رکھتا تھا۔ سو اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھتا ہے۔

صحیح بخاری شریف میں آیا ہے کہ حضرت صلعم نے فرمایا جو شخص چاہے روئے کو کھو دے اور جنت ہے۔ سو حضرت عثمانؓ نے اس کو نہیں کھو دیا۔ اور فرمایا جو توبہ کے لشکر کا سامان درست کرے اس کے لئے جنت ہے۔ سو عثمانؓ نے اس لشکر کا سامان بنا دیا۔

بخاری میں حمران حضرت عثمانؓ کے مولے (غلام آزاد) سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان کو دیکھا کہ پانی کا برتن منگایا۔ پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر تین دفعہ پانی خوب دھویا۔ پھر پانی میں ہاتھ ڈالا اور کلی کر کے ناک میں پانی جھاڑا۔ پھر تین دفعہ دھو کر دو ہاتھ کہنیوں تک تین دفعہ دھوئے۔ پھر سارے سر کا ایک بار مسح کر کے ٹخنوں تک تین دفعہ

دو ڈیپاؤں دھوئے۔ پھر آپ نے کہا کہ رسول خدا صلعم نے فرمایا جو میرے اس وضو جیسے وضو کر کے ایسے نضوع و خشوع کے ساتھ دو رکعت پڑھے کہ ان میں اپنے نفس سے باتیں نہ کرے یعنی وسوسہ کو جگہ نہ دے تو اس سے پہلے کے اس کے سارے گناہ بچتے جائیں گے۔

ابن شہاب کہتے ہیں لیکن عروہ اس حدیث شریف کو حمران سے اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمانؓ وضو کر چکے تو فرمائے لگے میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ اگر

قرآن مجید میں ایک آیت کتمان نہ ہوتی تو میں تمہیں وہ حدیث نہ سناتا۔ وہ حدیث یہ ہے کہ میں نے رسول خدا صلعم کو فرماتے سنا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو جو گناہ اس کے اور نماز کے درمیان میں ہیں وہ سب کے سب بچتے جاتے ہیں۔

بخاری میں عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ عبید اللہ بن عدی بن خیبار نے عروہ کو اس بات کی

ہی کہ مسودہ بن مخزومہ اور عبد الرحمن بن الاسود بن عبد یغوث نے عبید اللہ سے کہا کہ حضرت
 ان سے ان کے بھائی ولید کی شان میں (تاخیر اقامت حد کی بابت) تجھے کلام کرنے سے کون
 مانع ہے۔ لوگوں نے تو اس کے حق میں بہت کچھ کہا سنا ہے۔ عبید اللہ کہتے ہیں میں نے
 رت عثمان سے ملاقات کا ارادہ کیا۔ جس وقت وہ نماز کی طرف نکلے میں نے کہا اے امیر المؤمنین
 آپ سے کچھ کہنا ہے۔ اور اپنی حاجت عرض کرنی ہے اور درحقیقت وہ آپ کی ہی خیر خواہی
 ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ اے شخص تجھ سے پناہ ہے۔ مہر کہتے ہیں۔ میں گمان کرتا ہوں
 حضرت عثمان نے یوں فرمایا کہ میں اللہ کی تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ عبید اللہ کہتے ہیں میں
 سکر پھرا اور ان لوگوں کی طرف لوٹ آیا۔ اتنے میں حضرت عثمان کا قصد مجھے بلانے آیا
 وہیں ان کے پاس گیا فرمایا وہ تیری خیر خواہی کیا ہے۔ بیان کر۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے
 اپنے پیغمبر صلعم کو حق کے ساتھ بھیجا اور ان پر کتاب اتاری۔ اور آپ ان میں سے ہیں جنہوں
 نے اللہ اور رسول کو قبول کیا۔ اور زمینہ اور حبشہ کی طرف دو ہجرتیں کیں۔ اور رسول
 خدا صلعم کے ساتھ رہ کر ان کی خصلت اور عادت دیکھی۔ حالانکہ لوگوں نے ولید کے حق
 میں بہت کچھ کہا ہے۔ (سو تمہیں اس پر حد قائم کرنی چاہئے) حضرت عثمان نے فرمایا تو نے
 رسول خدا صلعم کو پایا ہے۔ میں نے کہا ان کے دیدار سے تو مشرف نہیں ہوا لیکن ان کا وہ علم
 جو کواری عورتوں کو پردہ میں پہنچتا تھا مجھے پہنچا ہے۔ (یعنی نبی صلعم کا علم پوشیدہ نہ تھا)
 بلکہ ایسا شائع تھا کہ پردہ نشین عورتوں کو بھی معلوم تھا تو مجھے باوجود اس پر حریص ہونے کے

بدرجہ اولیٰ ہونا چاہئے یہ سن کر حضرت عثمانؓ نے فرمایا انا بعد بیشک خدا تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلعم کو حق کے ساتھ بھیجا۔ اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اللہ ورسول کو قبول کیا اور جس کتاب کے ساتھ آپ بھیجے گئے میں اس پر ایمان لایا اور جیسا کہ تو نے کہا میں نے وہ ہجر میں بھی کیں اور رسول خدا کی صحبت میں بھی رہا۔ پس خدا کی قسم میں نے رسول خدا کی کبھی نافرمانی اور بدخواہی نہیں کی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھالیا۔ پھر میں نے ابو بکرؓ کی بھی اسی طرح کبھی نافرمانی اور بدخواہی نہیں کی۔ پھر حضرت عمرؓ کی بھی اسی طرح پھر میں خلیفہ بنایا گیا سو کیا میرا اتنا بھی ان پر حق نہیں ہے۔ جتنا ان کا مجھ پر ہے۔ میں نے عرض کیا کیوں نہیں فرمایا۔ جو باتیں تمہاری طرف سے بھڑپو پختی ہیں وہ کیسی ہیں (یعنی تم کہتے ہو عثمان نے ولید پر حد کیوں نہیں قائم کی دیر کا کیا باعث) ہاں تو نے ولید کی بابت جو کچھ ذکر کیا ہے ہم اس سے انشاء اللہ شرع کا حق لے لیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت علیؓ کو بلایا اور اسے اسی کوڑے مارنے کا حکم فرمایا چنانچہ وہ اس کو بھونچا۔

ترمذی اور ابن ماجہ میں روایت ہے کہ حضرت عثمان بن عفانؓ جب کسی قبر پر گھرے ہوئے تو اتنا روتے کہ آپ کی ڈاڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے عرض کیا کہ جب آپ جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو اتنا نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر روتے ہیں۔ فرمایا۔ رسول اللہ صلعم فرماتے تھے کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے۔ سو جس نے قبر سے نجات پائی تو جو چیز اس کے بعد ہے وہ اس سے آسان ہے۔ اور اگر قبر ہی سے چھکارا نہ ہوا تو جو اس کے بعد ہے

وہیں سے زیادہ سخت سے حضرت عثمان فرماتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کوئی
 ایسی دیکھی کہ جیسا میں نہیں دیکھی پھر سے یہ بڑی جگہ جو سینے قبر سے زیادہ مشکل ہے۔
 حسین بن عبد اللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ
 آپ ایک تنگی گھڑتے پھرتے ہیں اور وہ انی عمامہ سر پر رکھے ہوئے ہیں۔ اور آپ کے ہاتھ مبارک
 میں ایک جنت کی چھتری بند ہو چکا ہے۔ میں نے کہا ان کے رسول تمہاری تو آپ کو خواب میں
 دیکھنے کا بہت مشاق تھا۔ اور اب میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ بلدی بلدی تشریف لے
 جاتے ہیں آپ نے مجھے ہنر کر دیکھا اور مسکرا کر فرمایا کہ عثمان بن عفان کی جنت میں حور سے
 شادی ہے۔ اور ہم ان کے دلچہ میں بہائے گئے ہیں۔ اس وجہ سے میں بلدی بلدی جاتا ہوں۔
 ابن عساکر ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ سب یاروں میں میرے خلق کے
 ساتھ زیادہ مشابہ ہیں۔

بلقان میں عبد بن مالک سے روایت ہے کہ جب رسول خدا کی دوسری صاحبزادی جو حضرت عثمان
 کے نکاح میں تھیں انتقال کر گئیں تو حضرت نے فرمایا عثمان کا نکاح کر دو۔ اگر میری بیسری بیٹی ہوتی
 تو انہیں سے نکاح کرتا۔ میں نے عثمان رضی اللہ عنہ سے نکاح اللہ کے وحی کے سبب سے کیا تھا۔
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دفن کے تین دن بعد لوگ عبد الرحمن بن عوف کے پاس آکر جمع ہوئے۔ اور
 ان سے مشورہ اور سرگوشی کرتے تھے سو کوئی ایسا صاحب را ان سے فلوت نہ کرتا تھا کہ حضرت
 عثمان کے مقابلہ میں کسی اور کو برابری دیوے۔ جب عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بیعت کرنے بیٹھے تو خدا کی حمد

و ثنا کے بعد اپنی کلام میں فرمایا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ علاوہ حضرت عثمان رضی کی خلافت کے سب کا انکار کرتے ہیں۔ ابن عساکر سوربن مخزوم سے روایت کرتے ہیں اور ایک روایت میں یوں ہے کہ عبد الرحمن بن نے فرمایا ابا بعد اسے علی بن نے لوگوں میں خوب غور کیا سو میں نے ان میں سے کسی کو ایسا نہیں دیکھا کہ وہ کسی کو حضرت عثمان کے برابر کرے۔ سو تم اپنے جی میں غصے نہ ہونا۔ پھر حضرت عثمان کا ماتھ پکڑ کر فرمایا ہم تم سے اللہ کے طریقے اور اس کے پیغمبر اور پیغمبر کے بعد دونوں طریقوں کے طریقے پر بیعت کرتے ہیں۔ سواد ل تو عبد الرحمن نے بیعت کی۔ پھر ہاجرین و انصار لے۔

ابن سعد اس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی نے وفات سے تھوڑی دیر پہلے کسی کو ابو طلحہ انصاری کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ تم چاکس انصاریوں کو لیکر اس جماعت اصحاب شورہ کے ساتھ رہو۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ قریب ایک گھر میں جمع ہوں گے سو تم اپنے یاروں کے ساتھ ان گھر کے دروازہ پر کھڑے رہنا۔ پھر کسی کو اندر جانے کے لئے پھوڑنا یعنی کسی کو اصحاب شوری کے سوا گھر میں نہ جانے دینا۔ اور جب تیسرا دن گزر جاوے تو جب تک کہ وہ کسی کو اپنے میں سے خلیفہ نہ بنالیں انہیں بھی مت چھوڑنا۔

ابو نعیم حضرت ابو عامر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلعم نے فرمایا۔ بیٹوں کے بعد اس امت میں سب سے زیادہ جہا میں عثمان بن عفان ہے۔ ابن عساکر عبد الرحمن بن مہدی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان میں دو ایسی خصلتیں تھیں جو حضرت ابو بکر و عمر رضی میں نہ تھیں۔ ایک

تو ان کا اپنے نفس پر صبر کرنا یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ دوسرے سب لوگوں کو ایک مصحف پر جمع کرنا۔

ابن عساکر زید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت اُسے سنا فرماتے تھے میرے پاس عثمان ایسے وقت آئے۔ کہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ میرے پاس موجود تھا۔ اُس فرشتہ نے کہا یہ شخص شہید ہوگا۔ ایک قوم اسے قتل کرے گی ہمیں اس شخص سے شرم آتی ہے۔

ابن سعد اور ابن عساکر محمد بن شہاب زہری روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی سرح مصر کے والی سے جب تعدی ہوئی اور اُس نے ایک شخص کو ناحق قتل کر ڈالا تو مصریوں کی استنادنا پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد کو مصر کا والی مقرر کر کے روانہ کیا۔

اور ان کے ساتھ کئی مہاجرین و انصار بھی گئے۔ پس جب مدینے سے تین منزل پر نکل گئے تو ایک حبشی غلام اونٹ بھاگے ہوئے آپہنچا۔ گویا کہ وہ کسی کو ڈھونڈتا ہے۔

یا بھساگا ہوا آیا ہے۔ سو اُس کو محمد کے یاروں نے فرمایا تیرا کیا حال ہے

کہا۔ میں امیر المومنین کا غلام ہوں۔ انہوں نے مجھ مصر کے عامل کی طرف بھیجا ہے۔ کسی نے کہا مصر کے

عامل یہ ہیں۔ کہا میں انہیں نہیں ڈھونڈتا۔ ایک شخص اُسے پکڑ کر محمد کے پاس لے آیا۔ انہوں نے

فرمایا تو کس کا غلام ہے سو کبھی تو اُس نے کہا میں امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا غلام ہوں اور

کبھی کہتا تھا کہ مروان کا غلام ہوں یہاں تک کہ ایک شخص نے پہچان لیا کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا

غلام ہے۔ پھر محمد نے اُس سے پوچھا کہ تو کس کی طرف بھیجا گیا ہے۔ کہا مصر کے سردار کی طرف۔

فرمایا تیرے پاس کوئی خط ہے۔ کہا نہیں۔ پس لوگوں نے اُس کی تلاشی لی۔ کوئی خط وغیرہ اُس کے پاس نہ پایا۔ اور اُس کے پاس ایک خشک چھاگل پانی کی تھی۔ جس میں کوئی چیز ہلتی تھی۔ ہر چند کہ لوگوں نے اُسے ہلایا۔ مگر کچھ نہ نکلا۔ پس لوگوں نے اُس چھاگل کو پھاڑ ڈالا۔ اُس میں سے ایک خط نکلا جو عثمانؓ کی طرف سے عبد اللہ بن ابی سرح کے نام تھا۔ یہ دیکھا محمدؐ نے اپنے ساتھیوں مبارک بن وانصار کو جمع کیا اور اُن کے سامنے اس خط کو کھولا۔ لکھا تھا کہ جب تیرے پاس محمدؐ اور فلان فلان شخص ہو نہیں تو اُن کے قتل میں حیلہ کیجو اور اُس خط کو جو اُن کے ہمراہ ہے باطل سمجھو۔ اور جب تک اور کوئی میری رائے تیرے پاس نہ پہنچے اپنے عمل پر ہرارہو۔ اور جو لوگ تیری زیاد میرے پاس لائے ہیں انہیں ایک مدت تک قید کر۔ پس جب محمدؐ نے خط پڑھا تو سب کے سب گھبر گئے اور عجب میں آکر مدینہ واپس آئے۔ محمدؐ نے اُس خط پر اُن لوگوں کی مہریں جو اُن کے ہمراہ تھے لگو کر وہ خط ایک شخص کے حوالہ کر دیا تھا۔ مدینہ میں آئے ہی طلحہ اور زبیر اور علی اور سعد اور جنتے صحابہ حضرت محمدؐ صلعم تھے سب کوچ کر کے اُن کے سامنے خط کی مہریں توڑیں اور غلام کے سارے قصہ اور اُن کے خط پڑھنے کی خبر دی۔ پس مدینہ والوں میں سے کوئی بھی ایسا باقی نہ رہا کہ عثمانؓ نے پر غصہ نہ ہو۔ اس کے بعد وہ اپنے اپنے ٹھکانے پر چلے گئے۔ اُس خط کے سننے اور پڑھنے سے ہر ایک شخص مغموم تھا۔ یہاں حضرت عثمانؓ پر لوگوں نے گھیرا ڈالا۔ اور محمدؐ بن ابی بکرؓ بنی تم وغیرہ کو عثمانؓ پر چڑھا لائے۔ پس جب حضرت علیؓ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے طلحہ اور زبیر اور سعد اور عمار اور ایک صحابہ کی جماعت کی طرف جو سب کے سب بدری تھے کسی کو بھیجا۔ پھر اُس خط

اور غلام اور اونٹ کو اپنے ساتھ لے کر حضرت عثمانؓ کے پاس آئے اور حضرت علیؓ نے حضرت
 عثمانؓ سے کہا یہ تمہارا غلام ہے فرمایا ہاں۔ حضرت علیؓ نے فرمایا یہ تمہارا اونٹ ہے۔ جواب
 فرمایا ہاں۔ فرمایا کیا تم نے یہ خط لکھا ہے۔ حضرت عثمانؓ نے فرمایا نہیں۔ اور قسم کھا کر فرمایا میں نے
 یہ خط لکھا۔ نہیں نے اس کا کسی کو حکم کیا۔ نہ پھر اس کا کچھ علم ہے۔ حضرت علیؓ نے فرمایا یہ تمہارا
 اونٹ ہی کی ہے۔ فرمایا ہاں۔ لیکن جب لوگوں نے خط پہچانا تو مروان کا خط معلوم ہوا۔ لوگوں
 کو امر عثمانؓ میں شک سا پڑ گیا۔ اور کہا گیا کہ مروان کو ہمیں دیدیا جاوے۔ مگر حضرت عثمانؓ
 نے انکار کیا۔ اور اُس وقت مروان حضرت عثمانؓ کے گھر میں موجود تھا۔ اصحاب محمدؐ صلعم
 غصہ میں بھرے ہوئے وہاں سے نکلے۔ اور حضرت عثمانؓ کے کام میں شک کرنے لگے۔ گو عملاً
 لوگوں نے جان لیا کہ حضرت عثمانؓ نے جھوٹی قسم کبھی نہ کھائیں گے۔ مگر ایک قوم نے زبیرؓ سے کہا
 کہ جب تک حضرت عثمانؓ مروان کو ہمیں نہ دیں گے۔ ہماری دلوں سے کبھی بری نہ ہوں گے
 ہم مروان سے اس کا کھوج لگائیں اور خط کا حال معلوم کریں۔ وہ پھر صلعم کے یاروں میں سے
 ایک مرد کو ناحق کیوں قتل کیسے گا۔ اگر حضرت عثمانؓ نے یہ خط لکھا ہے تو ہم انہیں خلافت سے
 علیحدہ کر دیں گے۔ اور اگر مروان نے حضرت عثمانؓ کی معرفت لکھا ہے تو ہم اُس میں نظر
 کریں گے۔ ہر چند کہ لوگوں نے اُن کے گھر کا پیچھا نہ چھوڑا۔ مگر عثمانؓ نے مروان کے نکالنے سے
 انکار ہی کیا۔ اور اُس پر قتل کا خوف کر کے انہیں نہ سوچا۔ پھر تو لوگوں نے سارے گھر کا محاصرہ
 کر لیا اور پانی بالکل بند کر دیا۔ سو حضرت عثمانؓ نے گھر کے تابدان سے لوگوں پر بھانک کر کہنے لگے

کیا تم میں حضرت علیؑ نہیں کہا نہیں۔ فرمایا سعد بن لوگوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ چکے ہو گئے
 پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کیا کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ خبر علیؑ کو پہنچا دے۔ کہ وہ ہمیں باہر
 بلا دیں۔ سو جب حضرت علیؑ کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے تین مشکیں پانی کی بھری ہوئی ان کے پاس
 بھیجیں۔ جب حضرت علیؑ کو معلوم ہوا کہ لوگ حضرت عثمانؓ کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ نے
 فرمایا ہم تو حضرت عثمانؓ سے مروان کو چاہتے ہیں۔ اور قتل عثمانؓ ہمیں منظور نہیں۔ پھر حضرت
 حسنؓ و حسینؓ سے آپ نے فرمایا کہ تم دونوں اپنی تلواریں لے کر حضرت عثمانؓ کے دروازہ
 پر کھڑے رہو اور کسی کو ان تک پہنچنے نہ دو۔ رادھ سے زبیرؓ نے اپنے بیٹے کو اور طلحہؓ نے اپنے
 بیٹے کو اور بہت سے اصحاب محمدؐ صلعم نے اپنے اپنے فرزندوں کو بھیجا کہ حضرت عثمانؓ پر لوگوں کو
 داخل ہونے سے منع کریں اور مروان کا وہاں سے نکلنے کا سوال کریں۔ پس جب محمد بن
 ابی بکرؓ نے یہ واقعہ دیکھا تو بلدی سے آئے اور لوگوں نے حضرت عثمانؓ پر تیر برس سانسے
 شروع کیے یہاں تک کہ حضرت حسنؓ دروازے پر خون میں رنگین ہو گئے۔ اور مروان کو
 بھی ایک تیر لگا۔ اس حال میں کہ وہ گھری میں تھا۔ اور محمدؓ طلحہ کے بیٹے سے خون بہنے لگا
 قبر حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ کے غلام کا سر پھوٹ گیا۔ محمد بن ابی بکرؓ کو خوف ہوا کہ مبادا حضرت حسنؓ
 و حسینؓ رضی اللہ عنہما سے بنو ہاشم غصہ میں آئیں اور ایک نیا فتنہ پیدا ہو۔ سو انہوں نے دو آدمیوں
 کا ہاتھ پکڑ کر کہا اگر بنو ہاشم آکر حضرت حسنؓ رضی اللہ عنہ کے منہ پر خون بہنا دیکھیں گے تو حضرت عثمانؓ
 سے لوگوں کو بالکل علحدہ کر دیں گے۔ اس وقت ہمارا مقصود بالکل باطل ہو جاوے گا۔ ہاں

میرے ساتھ چلو کہ ہم دیوار پر چڑھ کر ان کے گھر میں کودیں اور بدوں کسی کے جاننے کے ہم انہیں
 قتل کر ڈالیں۔ سو محمد اور ان کے دونوں ہمراہی ایک انصاری مرد کے گھر میں سے کودے اور حضرت
 عثمان کے پاس آئے۔ یہاں حضرت عثمان نے ان کے ساتھ علم نہ ہوا۔ کیونکہ
 وہ گھر کی چھت پر موجود تھے اور صرف ان کی بیوی ان کے ساتھ تھیں۔ ٹھہرنے اپنے دونوں ہمراہی
 سے کہا تم یہیں ٹہرے رہو۔ جیتک کہ میں اندر آنے کی تمہیں اجازت دوں۔ کیونکہ ان کی بیوی
 موجود ہے۔ جب میں انہیں پکڑ لوں تم چلے آنا اور ان پر پل جانا یہاں تک کہ قتل کر ڈالنا۔ یہ کہہ کر
 محمد آئے اور حضرت عثمان نے ان کی ڈاڑھی مضبوط پکڑ لی۔ حضرت عثمان نے فرمے کہ خدا کی
 قسم اگر تیرے باپ (ابوبکرؓ) یہ حال دیکھتے تو یہ تیری گستاخی انہیں بہت بری لگتی۔ یہ سنتے ہی
 محمد کا ہاتھ ڈھیل پڑ گیا اور ڈاڑھی چھوڑ دی اتنے میں وہ دونوں کجخت آن کر حضرت عثمان
 پر پل پڑے یہاں تک کہ انہیں قتل کر ڈالا۔ اور جس راہ سے آئے تھے اسی راہ سے بھاگ کر
 نکل گئے۔ ہر چند ان کی بی بی پھلائی روئیں مگر ان کا چلانا کسی نے نہ سنا۔ وجہ یہ کہ گھر
 میں عجیب تلاطم اور شور ہو رہا تھا۔ انجام کار حضرت عثمان نے بی بی کو ٹھٹھے پر چڑھکے کہنے لگے کہ
 امیر المومنین قتل کئے گئے سو لوگوں نے ان کو ان کو مذبح پایا۔ جب یہ خبر حضرت علیؓ اور طلحہؓ
 اور زبیرؓ اور سعدؓ اور اہل مدینہ کو پہنچی تو سب کے سب نکل کھڑے ہوئے اور اس قتل کی
 خبر نے ان کی عقلیں کھودیں یہاں تک کہ جب عثمان نے ان کے پاس آئے تو انہیں مقتول پایا
 پھر سب نے بل کر انا لہد وانا الیہ راجعون پڑھا۔ اور حضرت علیؓ نے اپنے دونوں صاحبزادوں

فرمایا۔ امیر المومنین کیوں قتل کئے گئے۔ حالانکہ تم دروازے پر موجود تھے۔ اور اپنا ہاتھ اٹھا کر

کے ایک گھونسا مارا اور حسینؑ کی چھاتی پر زور سے تھپڑ مارا اور محمد بن طلحہ اور عبداللہ بن زبیر کو

بیعت برا بھلا کہا۔ اور وہاں سے نکل کر غصہ میں بھرے ہوئے اپنے مکان پر آئے۔ اور لوگ

وڑے ہوئے حضرت علیؑ کے پاس آ کر کہنے لگے ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں۔ کیونکہ کوئی امیر

ضرور ہونا چاہئے۔ سو اپنا ہاتھ دراز کیجئے۔ حضرت علیؑ نے فرمایا یہ خلافت کسی کو سوچنا تمہارا

اختیار میں نہیں اور تمہارے کہنے سے میں بیعت کر سکتا ہوں۔ یہ تو بدریوں کے اختیار

میں ہے۔ اہل بدر جس سے راضی ہوں گے وہی خلیفہ ہوگا۔ اہل بدر میں سے کوئی شخص ایسا

باقی نہ رہا کہ وہ حضرت علیؑ کے پاس نہ آیا ہو۔ پھر سب نے مل کر ان سے کہا اب علیؑ ہم

کسی اور کو اس خلافت کا تم سے زائد مستحق نہیں جانتے۔ اب اپنا ہاتھ کھویئے کہ ہم بیعت

کریں۔ پس سب نے ان سے بیعت کر لی۔ مروان اور اس کا بیٹا وہاں سے بھاگ کر کسی طرف

چلے گئے۔ اور حضرت علیؑ نے حضرت عثمانؓ کی بی بی کے پاس آ کر کہنے لگے تمہیں معلوم ہے

عثمانؓ کو کس نے قتل کیا وہ بولیں مجھے معلوم نہیں اتنا جانتی ہوں کہ وہ ایسے آدمی جن سے

میں واقف نہ تھی عثمانؓ کے پاس آئے اور ان کے ساتھ محمد بن ابی بکر بھی تھے۔ پھر جو کچھ محمد

نے اور لوگوں نے ان کے ساتھ کیا تھا ان کی بی بی نے سب کی اطلاع حضرت علیؑ کو دی۔

حضرت علیؑ نے محمد کو بلا کر جو اجرا حضرت عثمانؓ کی بیوی نے ذکر کیا تھا۔ ان سے پوچھا۔

محمد بولے وہ جھوٹ نہیں بولیں۔ بیشک میں حضرت عثمانؓ کے پاس گیا اور انہیں قتل

کرنا چاہا تھا۔ سو انہوں نے میرے باپ کو مجھے یاد دلایا۔ میں اسی وقت ان کے پاس سے کھڑا ہو گیا۔ اور اللہ سے توبہ کی۔ خدا کی قسم نہ میں نے انہیں قتل کیا اور نہ پکڑا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی نے کہا محمد سچ کہتا ہے۔ مگر وہ ان دونوں شخصوں کے ہمراہ فرور آیا تھا۔

بن عساکر کتنا صفیہ کے غلام وغیرہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مہروں میں سے ایک نیلی آنکھ سرخ رنگ والا شخص نے جسے عمار کہا جاتا تھا شہید کیا۔

احمد وغیرہ بن شعبہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس اسی وقت گئے جب کہ لوگوں نے ان کا محاصرہ کر لیا تھا۔ اور کہا آپ سب لوگوں کے امام ہیں اور جو مہینیں آپ پر اتری ہیں انہیں ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ میں تین باتیں آپ پر پیش کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک کو اختیار کر لیجئے۔ یا تو آپ یہاں سے نکلے اور ان سے مقاتلہ کیجئے۔ کیونکہ آپ کے ساتھ بہت سے

آدمی لڑنے کو تیار ہیں۔ اور آپ حق پر اور وہ باطل پر ہیں۔ دوسرے یہ کہ ہم آپ کے لئے ان دروازہ کے علاوہ جس پر وہ موجود ہیں ایک اور دروازہ کھولیں۔ آپ اپنی اونٹنی پر چڑھ کر نکلے جائیں۔ کیونکہ جب تک آپ مکہ میں رہیں گے وہ ہرگز آپ کے خون کو مباح نہ بولیں گے۔

تیسری یہ بات کہ آپ اہل شام میں ہجرا دیں کیونکہ وہ شامی ہیں اور ان میں معاویہ بھی ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا اگر میں یہاں سے نکل کر مقاتلہ کرتا ہوں تو مسلمانوں کے خون بہھرتا ہے

سو میں ان لوگوں میں سے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آئے ان کی امت میں رہتے ہیں۔ اول خونریزی کرنے والا ہرگز نہ بنوں گا۔ اور اگر یہاں سے نکل کر نہ جاتا ہوں تو کبھی میں نہیں ہرتا۔

کیونکہ میں نے رسول خدا صلعم کو فرماتے سنا ہے کہ قریش میں سے ایک شخص مکہ کے حرم میں ستم کرے گا۔ اس پر تمام جہاں کے آدمیوں کا نصف عذاب ہوگا۔ سو میں ایسا شخص ہرگز نہ ہوں گا۔ اور اگر شاہیوں میں جا کر ملتا ہوں تو بھی اچھی بات نہیں کیونکہ میں اپنے دار ہجرت اور رسول خدا صلعم کے پردوس سے کبھی ہدانا ہوں گا۔

ابن عساکر ابی ثور فہمی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت گیا کہ وہ گہرے ہوئے تھے سو انہوں نے فرمایا میں نے اپنے پروردگار کے پاس دس خصلتیں پوشیدہ رکھی ہیں (۱) یہ کہ میں اسلام پیار میں کا چوتھا ہوں (۲) رسول اللہ صلعم نے اپنی بیٹی کا مجھ سے نکاح لیا اور جب وہ فوت ہو گئیں تو دوسری بیٹی مجھے بیاہ دی (۳) میں نے کبھی راگ کی خواہش نہ کی (۴) کبھی بڑائی کی آرزو نہ کی (۵) جب سے اپنے محبوب رسول خدا سے میں نے بیعت کی تو اپنا دہانا ماتھ اپنی شرمگاہ پر کبھی نہ رکھا (۶) اسلام لانے کے زمانہ سے اس وقت تک کوئی ایسا جمعہ نہ گذرا کہ میں نے اس میں ایک بردہ آزاد نہ کیا ہو یاں جب میرے پاس نہ ہوا تو اس کے بعد اس کے عوض آزاد کیا (۷) میں نے اسلام میں اور نہ جاہلیت میں کبھی زنا کیا (۸) کسی کی کبھی چوری نہ کی نہ اسلام اور نہ جاہلیت میں (۹) میں نے رسول اللہ صلعم کے زمانہ میں قرآن جمع کیا اور دسویں خصلت یہ ہے۔ کہ میں نے حضرت رسول خدا سے دو مرتبہ جنت لی۔ ایک مرتبہ پیر و مہ پر اور دوسری مرتبہ لشکر تبوک کے سامان تیمار کرنے پر۔

حضرت عثمان کا قتل سہ ایام تشریق کے اوسط میں ہوا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اٹھارہویں ذی الحجہ

جمہ کے دن آپ شہید ہوئے۔ اور ہفتہ کی رات مغرب و عشا کے درمیان خشن (مدینہ میں) ایک موضع ہے) بقیع میں مدفون ہوئے۔ اور سب سے پہلے بقیع میں آپ ہی دفن کئے گئے۔ آپ کا من شریف شہادت کے دن پورا بیاسی سال کا تھا اور بعض کے نزدیک ایک یا سی سال اور بعض کے نزدیک پورا سی۔ چھیاسی۔ نواسی۔ نوے۔ قتادہ فرماتے ہیں۔ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہما پر حضرت زبیرؓ نے نماز پڑھی اور قبر میں اتارا۔ کیونکہ انہوں نے نماز اور دفن کی وصیت زبیر کو کی تھی۔

ابن عساکر زید بن حبیب سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے اطلاع ہوئی ہے کہ جو سوار حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے قتل کے لئے گئے تھے ان میں سے اکثر دیوانے اور باولے ہو گئے۔

مزید سے روایت ہے کہ سب سے پہلا فتنہ حضرت عثمانؓ کا شہید ہونا تھا۔ اور سب سے پھلا فتنہ دجال کا نکلنا ہوگا۔ بچے اس ذات کی قسم ہے۔ جس کے دست قدرت میں میری جان ہے۔ جس شخص کے دل میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے قتل کی تجت رانی کے واسطے کے برابر بھی ہوگی وہ دجال کا تابع ہو کر مرے گا۔ اگر اپنی زندگی میں اسے پائے گا ورنہ قبر میں دجال پر ایمان لائے گا۔

ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے خون کا مطالبہ نہ کرتے تو ان پر آسمان سے پتھر برستے۔ حسن رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہما شہید ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہما نے زمین پر گئے ہوئے تھے۔ جب انہیں یہ خبر ہوئی تو فرمایا بار خدایا میں نہ ان کے قتل سے رہنی تھا اور نہ اس کے موافق ہوا۔ سمرہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک مضبوط قلعہ تھا۔ اور لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کو قتل کر کے اسلام میں ایک ایسا رخنہ پیدا کر دیا جو قیامت تک کبھی بند نہ ہوگا۔

اور مدینہ والوں میں خلافت تھی سو انہوں نے اسے خود نکال دیا اور اب وہ ان میں کبھی دوبارہ نہ آئے گی۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل ہونے کے بعد اہل بقیع جہادوں میں اور شکر میں گم ہو گئے۔ اور اسی طرح ان کے قتل کے بعد چاندوں میں اختلافات واقع ہوا۔ اس سے پہلے کبھی اختلاف ہوا تھا۔ اور یہ سمرخی (شفاق) جو آسمان کے کناروں میں دیکھی جاتی ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کے پہلے نہ تھی۔ ان کے قتل کے بعد دیکھی گئی۔ ان تینوں اثروں کو ابن عساکر نے نقل کیا ہے۔ عبد الرزاق محمد بن ہلال سے روایت کرتے ہیں کہ عبد اللہ بن سلام محمد بن ابوبکر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھیرا ڈالنے والوں کے پاس آ کر فرمانے لگے کہ اسے لوگو تم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل نہ کرنا۔ خدا کی قسم جو شخص تم میں سے اسے قتل کرے گا وہ اللہ کے پاس مجزوم ہو کر جائے گا۔ یعنی وہ ماتمہ نہ رکھتا ہوگا۔ بلاشبہ اللہ تلوار پھینچے میان میں رہے۔ اور خدا کی قسم اگر تم لوگ اسے قتل کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی تلوار کو ایسا میان سے کھینچے گا کہ پھر اسے غلاف میں جانا نصیب ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ پہلے زمانہ میں جو نبی قتل کیا گیا۔ اس کے قیدیوں میں ستر ہزار آدمی قتل کئے گئے۔ اور جب کسی خلیفہ کو لوگوں نے قتل کیا تو اس کے عوض پنتیس ہزار آدمی قتل کئے گئے۔ اس سے پہلے کہ آپس میں جمع ہو جائیں۔

ابن عساکر عبد الرحمن بن مہدی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میں وہ ایسی خصلتیں تھیں جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ میں نہ تھیں ایک تو سب لوگوں کو ایک مصحف پر جمع کرنا۔ دوسرے ان کا اپنے نفس پر صبر کرنا یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔

ابن سعد موسیٰ بن طلحہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ جمعہ کے دن دو زرد کپڑے پہنے ہوئے تشریف لائے اور منبر پر بیٹھ گئے۔ موذن تو اذان دیتا تھا اور آپ بائیں کر رہے تھے۔ لوگوں نے ان کے نرخ کے باب میں اور ان کے خبروں اور ان کے بیویوں کے احوال سے سوال کرتے۔

عبداللہ بن اروی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رات کو خرد اٹھ کر پانی لاتے اور وضو کرتے۔ لوگوں نے کہا اگر آپ اپنے خادموں کو حکم کریں تو وہ اس محنت کو آپ سے کفایت کریں۔ فرمایا نہیں۔ رات ان کے لئے اس واسطے ہے کہ اس میں آرام لیں۔ عمرو بن عثمان بن عفان کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی کا نقش (المننت بالذی خلق فسوی۔) اس ذات پر ایمان لایا۔ جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک کیا، تھا۔

نکاح الوہر یہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلعم نے فرمایا ہر نبی کے لئے اس کی امت میں ایک خاص دوست ہوتا ہے اور میرا دوست عثمان بن عفان ہے۔ ترمذی میں طلحہ سے روایت ہے کہ نبی صلعم نے فرمایا ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور میرا رفیق جنت میں عثمان ^(رفیق) ہے۔ ابن عساکر ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلعم نے فرمایا عثمان رضی اللہ عنہ کی شفاعت کی وجہ سے ایسے ستر ہزار آدمی جن پر دوزخ واجب ہو گئی ہوگی جنت میں بلا حساب داخل ہوں گے۔ امام احمد ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول خدا نے فرمایا میرے واسطے کسی میرے یار کو بلا لو۔ میں نے عرض کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو فرمایا نہیں

پھر میں نے کہا حضرت عمر کو فرمایا نہیں۔ پھر میں نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلاؤں فرمایا ہاں۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے تو آپ ان سے ایک کوٹے میں ہو کر سرگوشی کرنے لگے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا رنگ و گرگوں ہو رہا تھا۔ جب دار کا دن ہوا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ محصور ہو گئے۔ تو لوگوں نے عرض کیا کیا ہم آپ کی طرف سے نہ لڑیں۔ فرمایا ہرگز نہیں۔ کیونکہ رسول خدا نے مجھ سے ایک عہد لیا ہے اور میں اپنے نفس کو اس پر روکے ہوئے ہوں۔

ترمذی میں انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول خدا صلعم نے فرمایا میری امت پر سب سے زیادہ رحم کر نیوالے ابو بکر ہیں یعنی نرم دل اور اللہ کے کام بجالانے میں سب سے سخت زیادہ عمر ہیں اور سب سے سچے زائد عثمان بن عفان ہیں۔ اور سب سے زائد قضائیں علی ہیں اور حلال و حرام سے سب سے زائد واقف معاویہ بن جبل ہیں۔ اور فرائض کے علم میں سب سے زائد زین بن ثابت۔ اور قرأت میں سب سے زائد عالم ابی ابن کعب ہیں۔ اور ہر امت میں ایک امین ہوا ہے۔ اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔

ترمذی اور ابن ماجہ اور نسائی میں ابو امامہ بن کبیل سے بن حنیف سے روایت ہے کہ حضرت عثمان بن عفان نے دار کے دن زدار سے مراد وہ گھر ہے جس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گھر ہوئے تھے اور جس میں وہ شہید ہوئے (تبادلہ میں سے سر نکال کر فرمایا۔ سوائے تین باتوں کے کسی آدمی کا خون حلال نہیں۔ (۱) بیاد کے بعد کوئی شخص زنا کرے۔

(۲) اسلام کے بعد کوئی کافر ہو جائے۔ (۳) کوئی آدمی کسی کو ناحق مار ڈالے تو ایسا قتل کیا جاسکتا ہے۔ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ جاہلیتہ میں نہ اسلام میں میں نے کبھی زنا کیا۔ اور جس روز سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی مرتد نہ ہوا۔ اور نہ میں نے اس جان کو مار ڈالا جس کا قتل اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ پس اے لوگو کس وجہ سے تم میرے قتل کرنے پر آمادہ ہوئے ہو۔

ترمذی اور نسائی اور دارقطنی میں ثمامہ بن حزن سے روایت ہے کہ میں حضرت عثمان کے گھر میں حاضر ہوا۔ جس وقت وہ ان لوگوں پر جھانکے جنہوں نے ان کے گھر پر گھیرا ڈالا تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا میں تم سے بچتی خدا و اسلام پوچھتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے۔ اور مدینہ میں بجز بیرومہ کے اور کوئی پیٹھے پانی کا کنواں نہ تھا۔ سو آنحضرت نے فرمایا کون شخص ہے کہ بیرومہ کو خرید کر اپنا ڈول مسلمانوں کے ڈول کے ساتھ ڈالے (یعنی اپنی ملکیت سے نکال کر مسلمانوں پر وقف کر دے) اور یہ خریدنا کوئی دنیاوی عوض سے نہ ہو۔ بلکہ عوض ثواب کے کہ خریدنے والے کو جنت میں ملے گا۔ تو میں نے اس کنوئیں کو اپنے ذاتی مال سے خریدا۔ اور تم آج مجھے اس شیرین پانی پینے سے منع کرتے ہو۔ حتیٰ کہ میں دریا کا شور پانی پیتا ہوں۔ لوگوں نے کہا ناں ہم اس کو شاہد کرتے ہیں کہ تم نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تم سے اللہ اور اسلام کا واسطہ دیکر پوچھتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ مسجد مدینہ نماز پڑھنے والوں پر تنگ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کیا۔

فرمایا کون شخص ہے کہ ان فلان کی زمین خرید کر کے اسے مسجد میں بڑھا دے۔ اور یہ کہ کسی کو دنیا کی
 غرض سے ہو۔ بلکہ بدلے میں اس نیکی اور ثواب کے خریدنے والے کو جنت میں ملے گا۔ تو
 میں نے اس زمین کو اپنے ذاتی مال سے خریدا۔ اور آج تم مجھے اس میں زور کھتے ہو۔ پھر
 سے منع کرتے ہو۔ حافرین بولے خداوند ہم اقرار کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سچ کہا۔ پھر
 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تم سے اللہ اور اسلام کا واسطہ دیکر سوال کرتا ہوں۔ کیا تم جانتے
 ہو کہ میں نے لشکرِ غمرہ (لشکرِ تبوک) کا سامان درست کیا۔ اپنے ذاتی مال سے۔ حافرین
 بولے خداوند ہم اقرار کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سچ کہا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا
 میں تم سے اللہ اور اسلام کا واسطہ دیکر سوال کرتا ہوں۔ کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 مکہ کے ایک پہاڑ پر (جس کا نام بئیر تھا) تشریف رکھتے تھے۔ اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر
 و عمر رضی اللہ عنہما بھی تھا۔ پس وہ پہاڑ خوشی کے مارے ہلنے لگا۔ یہاں تک کہ اس کے کئی
 پتھر بھی نیچے گر پڑے۔ آنحضرت نے اپنے پاؤں سے پہاڑ کو ٹھکرا کر فرمایا اسے بئیر پھر جا
 کیونکہ تجھ پر نبی اور صدیق اور دو شہید ہیں۔ سامعین نے کہا خداوند ہم گواہ ہیں
 کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سچ کہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ اکبر انہوں نے گواہی دی
 کعبہ کے رب کی قسم میں شہید ہوں۔ یہ کلمہ تین بار فرمایا۔

بخاری میں عثمان بن عبد اللہ بن مویب سے روایت ہے کہ مہر یوں میں سے ایک شخص
 جو خانہ کعبہ کے حج کا ادا وہ رکھتا تھا۔ مکہ میں آیا۔ اور ایک قوم کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ پھر پوچھا

یہ کونسی قوم ہے۔ لوگوں نے کہا اکابر قریش میں سے ہیں۔ پھر پوچھا ان میں شیخ اور
 بڑا عالم کون ہے۔ لوگوں نے جواب دیا کہ عبداللہ بن عمر۔ پس اس مہری نے کہا اے
 ابن عمر میں تم سے ایک بات پوچھنے والا ہوں۔ اس کا جواب مجھ دو۔ کیا تم جانتے ہو کہ
 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دن کفار کے مقابلہ سے بھاگے۔ ابن عمر نے کہا ہاں۔ پھر اس شخص
 نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ جنگ بدر میں بھی غائب تھے۔ جواب دیا ہاں۔ پھر اس نے کہا کیا
 تم جانتے ہو کہ وہ بیعت رضوان سے غائب تھے۔ ابن عمر نے فرمایا ہاں۔ اس شخص نے
 خوش ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ مارا۔ ابن عمر نے فرمایا آئیں تجھ سے حقیقت حال بیان کر لیا
 لیکن ان کا احد کے ہن بھاگنا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اُسے معاف کر دیا۔
 اور ان کا بدر میں غیر حاضر ہونے کا باعث یہ ہے کہ ان کے نکاح میں رقیہ رسول خدا
 کی صاحبزادی تھیں اور وہ سخت بیمار تھیں۔ رسول خدا صلعم نے فرمایا تم اسے عثمان
 رقیہ کی تیمارداری کرو۔ اور تمہارے لئے اُس مرد کے برابر ثواب ہے جو بدر میں حاضر
 ہوا۔ اور اُس کا حصہ بھی تمہیں ملے گا۔ اور ان کی بیعت رضوان سے غیر شریکی کی ہے
 یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عثمان رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کنبہ کے اعتبار سے مکہ میں عزت رکھتا تو آنحضرت
 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عوض اسے بھیجتے۔ حضرت صلعم نے انہیں مکہ روانہ کیا۔ اور بیعت رضوان
 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے چلے جانے کے بعد واقع ہوئی۔ اُس وقت آنحضرت صلعم نے اپنے دائیں
 ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہے۔ پھر اسے اپنے بائیں ہاتھ پر مارا۔ اور

فرمایا یہ عثمانؓ کے لئے ہے۔ پھر ابن عمرؓ نے فرمایا جان جو ابوں کو اپنے ساتھ لے جا۔

ابو نعیم حلیہ میں سعید بن عمیر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ نے قتل کے بعد امیر المؤمنین

علیؓ ابن ابی طالبؓ نے ایک دن خطبہ پڑھا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور رسولؐ خدا صلعم پر درود

بھیجنے کے بعد فرمایا اے لوگو خبردار ہو حضرت عثمانؓ نے قتل کے دن سے میں بالکل ضعیف

ہو گیا۔ اور اس کلمہ کو تیس بار فرما کر میرے اُتر آئے۔

ابن سمان قیس بن عباد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے جہل کے دن حضرت علیؓ کو یہ فرمایا

سنا اے خداوند میں حضرت عثمانؓ کے خون سے تیری طرف اپنی بریت ظاہر کرتا ہوں جس دن

حضرت عثمانؓ شہید ہوئے میرے ہوش و حواس باختہ تھے۔ اور پھر اہل ان کے قتل کو برا

جاتا تھا۔ اور جب لوگ مجھ سے بیعت کر لے آئے میں نے صاف کہہ دیا کہ واللہ مجھ کو ایسی

قوم کی بیعت لینے سے (جس نے ایسے شخص یعنی حضرت عثمانؓ کو مار ڈالا۔ اور جس کے

حق میں رسول اللہ یوں فرمائیں آگاہ ہو کہ میں ایسے آدمی سے جیا کرتا ہوں جس سے فرشتے

جیا کرتے ہیں) شرم آتی ہے۔ میں اللہ سے شرماتا ہوں کہ لوگ مجھ سے بیعت کریں۔ اور

حضرت عثمانؓ بدون دفن یوں ہی پڑے رہیں۔ سو یہ سن کر وہ قوم واپس چلی گئی۔ پس

جب کہ حضرت دفن ہو چکے اور دوسری بار وہ لوگ آئے اور مجھ سے بیعت کا سوال کرنے لگے

تو میں بولا بار خدا یا میں اُس سے ڈرتا ہوں جس کی پیش قدمی حضرت عثمانؓ نے پر کی گئی

پھر ایک بڑی جماعت نے بزور مجھ سے بیعت کی۔ اور امیر المؤمنین کے لقب سے پکارا۔ اس

لفظ کے سنتے ہی میرا دل دکھ گیا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد آیا۔

محمد بن الحنفیہ بن علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ حمل کے دن حضرت علی نے فرمایا۔ جن لوگوں سے حضرت عثمان کو قتل کیا خدا تعالیٰ انہیں نرم زمین پہاڑوں میں جہاں کہیں ہوں لعنت کرے اور اپنی رحمت سے دور۔ اور محمد بن الحنفیہ سے روایت ہے کہ حضرت علیؑ کو خبر پہنچی کہ

حضرت عائشہؓ حضرت عثمانؓ کے قاتلوں کو لعنت کرتی ہیں۔ اُس وقت آپ سے بھی دونوں

ہاتھ اٹھا کر موٹھے کے مقابل کیے۔ اور فرمایا میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں پر لعنت کرتا

ہوں۔ اور دو یا تین دفعہ یوں فرمایا اللہ ان کو لعنت کرے خواہ وہ نرم زمین میں ہوں

یا پہاڑوں میں۔ عبداللہ بن حسن بن حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے پاس جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل

کا مذکور ہوا۔ تو وہ یہاں تک روئے کہ ڈارھی آنسوؤں سے بھیک گئی۔

جذب کہتے ہیں کہ میں حدیفہ کے پاس آیا انہوں نے مجھ سے کہا حضرت عثمانؓ کے ساتھ

کیا کیا گیا۔ میں نے کہا میں گمان کرتا ہوں کہ لوگ انہیں وہیں قتل کریں گے۔ فرمایا

اگر وہ اسے قتل کریں گے تو اس کا کیا بگاڑیں گے۔ وہ تو جنت میں ہو گا اور اس کے قاتل

دوزخ میں۔ ان چاروں اشروں کو ابن السمان نے سند صحیح سے روایت کیا ہے

مناقب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ

صاحب علم و جیانی کو شیم	حضرت عثمانؓ تھے اہل کرم
دختر حضرت ہیں دو ان کی حرم	حضرت عثمانؓ کی یہ شان ہے

حضرت عثمان مرتے دم تک
 حضرت عثمانؓ تھے سب سے حسین
 جامع قرآن بھی عثمانؓ تھے
 حضرت عثمانؓ رہ کر تھے فدا
 حضرت عثمانؓ سے تھے رافعی رسول
 حضرت عثمانؓ تھے صابر بہت
 حضرت عثمانؓ پہ رحمت تری

دین احمد پر ہے ثابت قدم
 تھے حسین سب سے زیادہ محترم
 شروہ جنت ملا ان کو بہم
 راہ حق میں سیم و زرد ام و دم
 اور ٹھہرا رضی خدا کے ذمہ المکرم
 صبر کرتے گر کوئی کرتا ستم
 یا خدا ہو دانا اور وہ بس م

حضرت عثمانؓ کی برکت سے علم
 اسے خدا ہو عبدا پر تیرا رحم

بخاری اور ابوداؤد میں حضرت انس رضی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ و
 اور حضرت ابوبکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کوہ افتخار پڑھے۔ پس پہاڑ انحضرت کی تشریف
 آوری کی خوشی سے ہلا۔ حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پاؤں کی ٹھوک مار کر فرمایا۔
 اُحد پڑا رہ۔ تجہ پہ نبی اور صدیق رضی اللہ عنہما اور دو شہید ہیں۔

عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ نے چاندی کی انگوٹھی بنائی ہوئی
 تھی۔ جس پر نقش محمد رسول اللہ تھا۔ وہ آپ کے ہاتھ میں رہتی تھی۔

ان کے بعد پھر حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کے ہاتھ میں رہی۔ پھر حضرت عثمانؓ کے ہاتھ آئی یہاں تک کہ ان کے ہاتھ سے پاؤں میں گر پڑی۔

نبی صلعم کے بعد بزرگی حضرت ابوبکرؓ کو ثابت ہے۔ پھر حضرت عمرؓ پھر حضرت عثمانؓ اور پھر حضرت علیؓ علیہم الصلوٰۃ والسلام کو ثابت ہے۔

عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ہم رسول خدا صلعم کے زمانہ میں حضرت ابوبکرؓ کے برابر کسی کو نہ سمجھتے تھے۔ پھر حضرت عمرؓ پھر حضرت عثمانؓ کے برابر کسی کو نہ کرتے تھے۔ پھر ہم اصحاب نبیؐ کو چھوڑ دیتے اور ان میں ایک کو دوسرے پر بزرگی نہ دیتے تھے۔ اسی بخاری اور مسلم اور ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔ ابوداؤد میں سالم بن عبداللہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ رسول خدا صلعم زندہ تھے اور ہم کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلعم کیسے اچھے افضل امت حضرت ابوبکرؓ ہیں پھر حضرت عمرؓ پھر حضرت عثمانؓ۔

امام احمد عبداللہ بن حنبل سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے فرمایا کیا میں تم کو اپنے نبی صلعم کے بعد بہترین اس امت کے خیر نہ دوں وہ حضرت ابوبکرؓ ہیں۔ پھر حضرت ابوبکرؓ کے بعد بہترین اس امت کے حضرت عمرؓ ہیں۔ پھر رکھے گا اللہ بھلائی کو جہاں دوست رکھے۔

بخاری اور ابوداؤد میں محمد بن الحنفیہ حضرت علیؓ بن ابی طالب کے فرزند سے روایت ہے کہ میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ نبی صلعم کے بعد تمام لوگوں میں کون شخص بہتر ہے۔ فرمایا حضرت ابوبکرؓ میں نے کہا پھر کون فرمایا حضرت عمرؓ۔ اس کے بعد محمد بن حنفیہ ہوا کہ بہاد آپ حضرت عثمانؓ

کا نام لے دیں۔ میں نے کہا حضرت عمرؓ کے بعد پھر آپؐ میں فرمایا نہیں میں تو مسلمانوں میں سے ایک مسلمان آدمی ہوں۔ بطرازی بن عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ ہم نبی صلعم کے زمانہ میں سب لوگوں میں سے حضرت ابو بکرؓ کو اختیار کرتے تھے پھر حضرت عمرؓ پھر حضرت عثمانؓ کو سو بنی صلعم سے سنتے اور انکار نہ کرتے۔ ترمذی میں ابو عبد اللہؓ سے عمرو بن عامرؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلعم بہترین قوم پر اپنی بات کے ساتھ متوجہ ہوتے تھے۔ (یعنی اس کے ساتھ خوش کلامی سے پیش آتے تھے) تاکہ اس کلام کی وجہ سے ان سے الفت پکڑیں سو مجھ پر اکثر توجہ فرمایا کرتے تھے۔ اس سے میں نے فریسا کیا کہ ساری قوم میں میں ہی بہترینوں یا حضرت ابو بکرؓ فرمایا ابو بکرؓ۔ پھر میں نے کہا میں بہترینوں یا حضرت عمرؓ۔ فرمایا عمرؓ۔ پھر میں نے کہا اے رسول خدا صلعم میں بہترینوں یا حضرت عثمانؓ۔ فرمایا عثمانؓ۔ جب میں نے رسول خدا سے پوچھا تو آپ نے میرے سوال کا جواب بدوں رعایت فرمایا میں دوست رکھتا تھا کہ کاش اس کا میں نے آپ سے سوال ہی نہ کیا ہوتا۔

فضائل حضرت امیر المومنین امام المتقین ابو الحسن علی بن ابی طالبؑ

سب تعریف کے لائق وہ پروردگار ہے جو دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وہ تمام مخلوقات پر نہایت مہربان ہے۔ وہی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تمام مخلوقات کی عبادت اسی ایک ذات کو لائق ہے۔ جو سب کی مدد کرتا ہے۔ جس کو وہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ اس کی ذات سب عیب اور احتیاج سے مبرا و منزہ ہے۔

تمام فرشتے اس کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ اس دنیا میں جو جو نعمتیں اللہ تبارک نے انسانوں کو عطا فرمائی ہیں وہ گنتی سے زیادہ اور بے انت ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑی نعمت رضامندی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جس کا دوسرا نام اسلام ہے۔ اسلام ہر عیب اور نقصان سے پاک ہے۔ جو شخص اس کو اختیار کرتا ہے وہ بھی ہر عیب اور نقصان سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس اسلام (نعمت عظمیٰ) کی تبلیغ کے لئے بہت پیغمبر خدا تعالیٰ نے مبعوث فرمائے۔ جنہوں نے خدا کے احکاموں (امر و نہی) کی تبلیغ فرمائی۔ اور لوگوں کو مستحق اس نعمت عظمیٰ کا پا کر چاہا۔ فضالت سے نکالا اور عرش ہدایت پر پہنچایا۔ جو ازلی بد بخت اور بد قسمت تھے وہ ہمیشہ پیغمبروں اور احکام الہی کے دشمن بنے رہے۔ ان پیغمبروں اور رسولوں میں سے آخر ختم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم مبعوث ہوئے جو سب انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام سے برگزیدہ ہوئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت بخشی ہے اور کسی

شاعر کا ایک مصرع کیا اچھا یاد آیا ہے۔ سبحان اللہ سے

آخر آمد بود فخر الاولین

اس برگزیدہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تین اصحاب برگزیدہ کا ذکر ہو چکا ہے۔ اب چہارم

خلیفہ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا بیان شروع ہوتا ہے۔

بخاری مسلم بن سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ رسول خدا نے حضرت علیؑ سے فرمایا

کہ تم میرے ساتھ مانند موسیٰ کے ساتھ ہارون کے ہو۔ فرق یہ ہے کہ وہ ہارون پیغمبر
 تھے اور تم پیغمبر نہیں ہو۔ یہ حدیث شریفہ سند کے رو سے بہت ہی خوب ہے۔ مؤلف
 کہتا ہے کہ اس حدیث شریف میں حضرت علی رضی کی بہت بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔
 مگر یہ یاد رہے کہ حضرت علی رضی کی اس فضیلت سے اصحابِ ثنائہ کا رتبہ حضرت علی رضی کے رتبہ
 سے کم نہ سمجھنا چاہئے۔ کیونکہ عمر رضی کی شان میں یہ حدیث شریف آئی ہے۔ اگر میرے بعد
 کوئی پیغمبر موتا تو عمر رضی ہوتے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی کا رتبہ سب اصحابوں سے
 اس واسطے زیادہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علیہ السلام نے تمام اصحابوں کی موجودگی
 میں کئی نمازوں میں حضرت ابو بکر رضی کو پیش امام ہونے کا ارشاد فرمایا۔ جیسا کہ پہلے مذکور
 ہے۔ اور ایک بار حضرت علیہ السلام کی بیماری کے وقت اصحابوں نے حضرت عمر رضی کو ایک
 نماز میں پیش امام بنایا تو جب حضرت عمر رضی کی آواز حضرت علیہ السلام نے سنی تو اسی وقت
 حضرت ابو بکر رضی کو بنا کر انہیں سے نماز پڑھوائی۔ پس ثابت ہوا کہ سب سے فضیلت میں
 زیادہ حضرت ابو بکر صدیق رضی ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی پھر حضرت عثمان رضی و
 حضرت علی المرتضیٰ رضی ہیں۔ اور اسی پر جمہور علماء اہل سنت کا اتفاق ہے۔ کہ حضرت
 ابو بکر صدیق رضی سب اصحابوں سے افضل ہیں۔ یہ اس واسطے بیان کیا گیا ہے۔ کہ مسلمان
 لوگ ان کے فضائل میں تذبذب نہ ہوں۔ پس رب ارحم الراحمین سے دعا ہے کہ اپنے
 فضل و کرم سے ہم کو اپنے حبیب پاک سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم

کے طفیل ان اصحاب کبار اور مہاجرین و انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت عطا فرماؤ۔ آمین
 جیسا کہ حافظ الحدیث ابو بکر الاثری نے اسناد صحیح کے ساتھ ابو جحیفہ سے روایت کی کہ میں نے
 حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ سے مسجد کوفہ کے منبر پر یہ سنا کہ آپ فرماتے تھے اس وقت
 اس پیغمبر صلعم کے بعد سب سے بہتر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے پھر سب سے بہتر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے
 شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ مضمون اس قدر کثرت طرق اور اسانید
 کے ساتھ ثابت ہے کہ متواتر کے درجہ پر پہنچ گیا ہے۔

بخاری مسلم میں سہل بن سعد ساعدی سے روایت ہے کہ رسول خدا صلعم نے غزوة خیبر کے
 دن فرمایا میں کل اس جھنڈے کو جو سرداری کی علامت ہے ایک ایسے شخص کو
 دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح کرے گا۔ وہ خدا اور رسول خدا کو دست
 رکھے گا۔ اور خدا اور رسول اس کو دست رکھیں گے۔ دوسرے دن تمام صحابہ رضی اللہ عنہم
 علی الصباح رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور سب اس جھنڈے ملنے کی امید
 رکھتے تھے۔ رسول خدا صلعم نے فرمایا علی بن ابی طالب کہاں ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا
 اے رسول خدا ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ فرمایا ان کو بلاؤ۔ جس وقت حضرت
 علی رضی اللہ عنہ کو بلا لائے تو رسول خدا نے اپنا لعاب دہن ان کی دونوں آنکھوں پہ لگایا
 بجز دکھانے کے وہ ایسی ہو گئیں جیسے پہلے ان میں درد ہی نہ تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ
 ان کو جھنڈا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے رسول خدا آپ اجازت دیتے ہیں کہ

میں کفار سے اس قدر لڑوں کہ وہ مسلمان ہو جاویں۔ آپ نے فرمایا جب ان کی زمین میں آترو تو پہلے ان کو اسلام کی دعوت کرو۔ اور جو حقوق الہی ان پر واجب ہیں انہیں ان کی خبر دو۔ بخدا ہزار کافروں کے مار ڈالنے سے ایک مومن کا پیدا کرنا بہتر ہے۔ ایک شخص کو ہدایت نصیب ہونا تمہارے لئے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔

ترمذی میں عمران بن حصین سے روایت ہے کہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ علیؑ مجھ سے ہیں اور میں علیؑ سے ہوں اور ترمذی میں زید بن ارقم سے روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علیؑ دوست ہے۔ ترمذی میں حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ جب میں نے رسول خداؐ سے کچھ مانگا تو آپ نے مجھے دیا۔ اور جب میں خاموش ہوا تو مجھے بے مانگے دیا۔ اور یہ بھی حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علیؑ اس کا دروازہ ہے۔

ترمذی میں ام عطیہؓ سے روایت ہے کہ رسول خداؐ نے ایک لشکر میں حضرت علیؑ کو بھیجے کسی طرف بھیجا۔ میں نے رسول خداؐ کو کہہ سنا کہ آپ دونوں ہاتھ اکٹھے ہوئے فرما رہے تھے۔ بار خدا یا۔ جب تک مجھے علیؑ نہ کو نہ دکھائے موت نہ دیکھو۔

ترمذی میں حضرت ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ بنی صلعم نے فرمایا کہ علیؑ کو منافق دوست نہیں رکھے گا۔ اور مومن ان سے بغض نہیں رکھے گا۔ امام احمد کی روایت میں یوں آیا ہے۔ آنحضرت نے فرمایا بار خدا یا جو علیؑ کی مدد کرے تو اس کی مدد کر۔ اور جو اسے

رسوا کرنا چاہے تو اُسے ذلیل کر۔ اور جو اُسے دوست رکھے تو اُسے دوست رکھ۔ اور جو اُسے دشمن رکھے تو اُسے دشمن رکھ۔

مسند احمد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ میں حضرت عیسیٰ کی صفت پائی جاتی ہے کہ اُس سے یہ ہووے یہاں تک عداوت کی کہ اُس کی ماں کو تہمت زنا کی لگائی۔ اور نصاریٰ نے اُسے یہاں تک دوست رکھا کہ جو مرتبہ اُس کے لائق نہ تھا وہاں تک پہنچایا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے باب میں دو قسم کے آدمی ہلاک ہوں گے۔ ایک نجات میں زیادتی کرنے والا اور دوسرا عداوت کرنا والا۔ نسائی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا کے پاس میرا وہ رتبہ تھا جو مخلوق میں سے اور کسی کا نہ تھا۔ میں بہت سویر سے آپ کے پاس جا کر کہتا السلام علیک یا نبی اللہ یعنی اے رسول خدا آپ پر سلام ہو (یہ سلام گھر میں داخل ہونے کے لئے اجازت مانگتی تھی) پس اگر رسول خدا کھنکارتے تو میں اپنے گھر واپس آتا۔ ورنہ آپ کے پاس جاتا۔

تعبیر بن مسیب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برائی سے باہر کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے فرابی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تو اس قبر والے کو پہچانتا ہے۔ وہ شخص یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس قبر میں محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب ہیں۔ جب تو نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ستایا تو اس قبر والے کو ستایا۔

امام احمد عبدالقادر بن ابی اوفی سے روایت ہے کہ حضرت علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم میری بیٹی فاطمہ اور میرے دو بیٹے حسن و حسین کے میرے ساتھ جنت کے ایک محل میں ہو گے۔ تم میرے رفیق ہو۔ پھر آپ نے آیت اخوانا علی سرہم مقبلین پڑھی۔ امام احمد ابن بریدہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم خیبر کی جنگ میں حاضر ہوئے۔ تو اول دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جھنڈا لیا۔ مگر ان کے ہاتھ پر خیبر فتح نہ ہوا۔ پھر دوسری صبح کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لیا اور وہ بھی بے ثمر و مرام واپس آئے اور قلعہ فتح نہ ہوا۔ اور لوگوں کو شدت اور مشقت پہنچی۔ تب رسول خدا نے فرمایا میں کل صبح کو یہ جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جسے خدا اور خدا کا رسول دوست رکھتا ہے۔ اور وہ بدوں فتح کئے واپس نہ آئے گا۔ آپ نے یوں فرمایا کہ اے اس کے ہاتھوں پر فتح دے گا۔ ابن بریدہ کہتے ہیں کہ ہم نے ساری رات خوشی میں گزاری کہ صبح فتح نصیب ہوگی۔ جب رسول خدا فری کی نماز پڑھ چکے تو کھڑے ہو کر جھنڈا مانگا۔ اور لوگ لڑائی کی صفوں میں تھے۔ پھر آنحضرت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ اور اپنے دست مبارک میں جھنڈے کو خوب ہلایا اور فرمایا۔ اس کو حق کے ساتھ کون شخص لیتا ہے۔ کوئی شخص بولا میں لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پر رہو۔ پھر کوئی اور آیا۔ اس کو بھی حضرت نے ویسا ہی فرمایا۔ چنانچہ ایک جماعت کے ساتھ کسی مرتبہ آپ نے ویسا ہی کیا۔ اس کے بعد رسول خدا صلعم نے فرمایا اے اس ذات کی قسم جس نے محمد کے مومنین کو بزرگی دی ہے۔ میں یہ جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا تو لڑائی سے

نہ بھانگے گا۔ اسے علی رضی اللہ عنہ سے کہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہو کہ اے اللہ! انہی
 نے ان کے ہاتھوں پر ٹیپس فتح کر دیا۔ راوی کہتا ہے کہ اہل خیبر میں سے ایک شخص مرحب نام
 یہودی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے رجز پڑھتا ہوا ظاہر ہوا۔ اور وہ یہ کہتا تھا۔ اہل خیبر ہانتے ہیں
 کہ میں مرحب ہوں۔ پیاروں سے مسلح اور لڑائی کے واقعات میں نہایت آزمودہ کار۔ جب
 شیر لڑائی کی آگ روشن کرنے آتے ہیں تو میں کبھی نیزہ گھاؤ لگاتا ہوں اور کبھی تلوار سے
 مارتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے خواب میں فرمایا۔ میں یہ ہوں کہ میری ماں نے
 میرا نام حیدر رکھا ہے۔ میں عراقی شیر خور فداک صورت کی مانند ہوں۔ میرے بازو مضبوط
 اور کلائیوں سخت ہیں۔ میں تلوار سے کافروں کے موٹھ کاٹنے کے واسطے ان کے موٹھ پر
 تلواریں مارتا ہوں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مرحب کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ اس کا سراگ
 کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مرحب کے سر کو لاکر رسول خدا کے آگے رکھ دیا
 آپ اس سے بہت خوش ہوئے اور میرے لئے دعائے خیر فرمائی۔ امام احمد نے فضائل
 میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس دن لوگوں نے آسمان سے تکیہ کی آواز سنی اور کسی کو
 یہ کہتے سنا کہ ذوالفقار کے سوا کوئی تلوار نہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے برابر کوئی جوان
 نہیں۔ سو حسان بن ثابت نے رسول خدا سے شعر پڑھنے کی اجازت مانگی۔ آپ نے
 انہیں پروا لگی دی تو انہوں نے اس وقت فرمایا۔

علی نے جو حرب پہ دھاوا کیا تو سر اس کا تن سے جدا کر دیا سر کو جدا کر کے لائے علی رضی اللہ عنہ تو حضرت کے آگے رکھ دیا

حضرت کو بے حد مسرت ہوئی علیؑ کو دعائیں دینے لگا علیؑ کو صواب سے کبھی نہ ہٹتا کہ کا فریڑا آج مارا گیا
اسی وقت آئی فلک سے ندا یہ جبریلؑ کو سنا کہتے سنا نہیں سمجھتا کہی مارو انفا ہمارے نہیں کوئی علیؑ کو
امام احمد ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علیؑ نے فرمایا میں اور رسول خدا صلعم پہلے

یہاں تک کہ کعبہ میں آئے پھر رسول خدا نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ میں بیٹھ گیا۔ آپ
میرے بندھوں پر چڑھ گئے میں آپ کو لے کر کھڑا ہونے لگا۔ مگر اٹھنے کی طاقت نہ تھی

آنحضرت صلعم مجھ میں کمزوری کے آثار دیکھ کر نیچے اتر آئے اور بیٹھ کر فرمائے لگے آ میرے کندھوں
پر چڑھ۔ میں آپ کے کندھوں پر چڑھ گیا۔ آپ مجھ لے اٹھے۔ اور میں خیال کرتا تھا کہ

اگر میں آسمان کے کنارے پہنچنا چاہوں تو اس تک پہنچ سکتا ہوں۔ غرض کہ میں کعبہ
پر چڑھا۔ اور اس پر پتیل اور تابنے کے بت رکھے تھے میں ان کو اپنے دائیں بائیں آگے

پھینچے سے اکٹھا کرنے لگا۔ جب میں ان پر قادر ہو گیا تو مجھ سے رسول خدا نے فرمایا نہیں
نیچے ڈالو۔ میں نے انہیں نیچے پھینک دیا۔ وہ شیشے جیسے ٹوٹ گئے۔ پھر میں اتر آیا

اور رسول خدا اور میں آگے بچھے دوڑتے ہوئے چلے آئے۔ اور اس خوف کی وجہ سے
کہ ببادا مشرکوں میں سے کوئی ہمیں مل جاوے گھروں میں چھپ گئے۔

امام احمد عمرو بن میمون سے روایت کرتے ہیں کہ میں ابن عباس کے پاس بیٹھا تھا۔ اتنے
میں ان کے پاس ایک قوم آئی جو حضرت علی بن ابی طالب کے باب میں طعن کرتے تھے۔

ابن عباس نے ان پر رو کیا اور فرمایا جب رسول خدا صلعم نے ہجرت کی تو حضرت علیؑ نے
نے آپ کے کپڑے پہنے اور آپ کے بچھوسے پیر پہنے۔ اور مشرک رسول خدا صلعم کو

خدا دیتے تھے۔ حضرت ابو بکرؓ اس حال میں آئے کہ حضرت علیؓ سوئے تھے۔ انہوں نے حضرت
 علیؓ کو رسول خداؐ گمان کر کے ایک پیچ باری اور کہا اسے نبی اللہ۔ حضرت علیؓ نے حضرت ابو بکرؓ
 سے فرمایا رسول خداؐ تو میریوں کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ ان سے جا ملے۔ حضرت ابو بکرؓ
 چلے یہاں تک کہ رسول خداؐ نے یہاں تمام رات کفار سے حضرت علیؓ پر پتھر کنکر کی بوجھ مار رکھی
 درود کپڑے میں سر پیٹے ہوئے صبح تک سوئے رہے۔

امام احمد جابر بن عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے
 اپنے لئے فرمایا کہ جنتیوں میں سے تم پر ایک آدمی طلوع کرتا ہے۔ حضرت علیؓ نے تشریف لائے۔
 یا برکتے ہیں اس کے بعد ہم نے ان کو مبارک باد دی۔

امام احمد سے حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے انہوں میں چلا
 جاتا تھا۔ ہم ایک باغ پر گزرے۔ میں نے کہا اے رسول خداؐ یہ کیا اچھا باغ ہے۔ فرمایا تمہارے لڑکوں
 میں جیسا جنت میں ہے۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ ہم اسی طرح سات باغوں پر گزرے۔
 اور آپ نے وہی فرمایا۔ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا فرماتے تھے
 کہ جو شخص اس سُرخ شاخ کو جسے اللہ نے اپنے ہاتھ سے جنت عدن میں بویا ہے لینا
 محبوب رکھے اُسے پائے کہ علی بن ابی طالب کی محبت میں قیام کرے۔

کیا اللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب کے پاس بھیجا اور
 فرمایا کہ اُس سے جا کر کہو تو دنیا اور آخرت میں سردار ہے۔ جس سے تجھ کو دوست رکھا اس سے

بچے دوست رکھا۔ اور جس نے تجھے دشمن جانا اس نے مجھ سے دشمنی کی۔

ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی رضی اللہ عنہ جو چیزیں اپنے لئے

دوست رکھتا ہوں وہی تمہارے لئے پچھتا ہوں۔ اور جو چیزیں اپنے لئے بڑی جانتا ہوں وہی

تمہارے لئے بھی ناپسند رکھتا ہوں۔ تم دونوں مسجدوں کے درمیان اتفاق کرو۔

امام احمد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا جب بدر کی رات ہوئی تو رسول اللہ

نے فرمایا ہمارے لئے پانی کون شخص لاتا ہے۔ یہ سن کر لوگ حیران کھڑے رہ گئے۔ میں اٹھا اور

مشک بغل میں دبا کر ایک بہت گہری اور تاریک کنوئیں پر آیا۔ پھر اس میں اُترا۔ اس وقت

اللہ تعالیٰ نے جبریل اور میکائیل علیہما السلام کو حکم فرمایا کہ تم مجھے صلوات اور ان کے گروہ کی مدد کے

لئے آواز دو اور تیار ہو جاؤ۔ سو وہ آسمان سے اترے۔ ان کی ایسی بہی بہی آواز تھی کہ جو سنتا

تو بے ہوش ہو جاتا تھا۔ پس جب وہ کنوئیں کے مقابل ہوئے تو وہاں ٹہر کر بڑھ گئی اور تعظیم

کے لئے سجدہ کیا۔

عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عین مرثدہ فرمایا کہ اے

علی رضی اللہ عنہ تم حبش میں میرے ساتھ ہو گے۔ امام احمد ابو ظہیران سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر

رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت جس سے زنا کیا تھا لائی گئی۔ آپ سے اسے رجم کرنے کا حکم فرمایا۔ لوگ

اسے رجم کرنے کے واسطے لئے جاتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ انہیں رستہ میں دیکھ کر فرمایا ان

عورت کی کیا کیفیت ہے۔ انہوں نے اس کے حال سے آپ کو خبر دی آپ نے اسے چھوڑ دیا۔

پھر حضرت عمرؓ کے پاس آئے انہوں نے فرمایا اسے علیؓ نے اس عورت کو کیوں
 پھیر دیا۔ کہا وہ دیوانی تھی۔ اور رسول خدا صلعم فرما گئے ہیں کہ تین شخصوں سے قلم مرفوع
 ہے۔ (یعنی وہ محل تکلیف نہیں)۔ (۱) سویا ہوا جیتک کہ جاگے۔ (۲) پچھ بہاں تک کہ یا لغ
 ہو جاوے۔ (۳) اجنون حتی کہ ہوش میں آئے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اگر علیؓ رضی اللہ عنہ ہوسے تو

عمرؓ ہوا تھا۔

امام احمد علی بن ربیعہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابن التیاح امیر المؤمنین حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے کہ
 کہنے لگا اے امیر المؤمنین بیت المال سونے چاندی سے بھر گیا ہے۔ حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ نے (تجب سے)
 ابد اکبر کا نعرہ مارا۔ پھر ابن التیاح کے ہاتھ پر سہارا لگا کر کھڑے ہوئے اور بیت المال میں تشریف
 لائے۔ پھر فرمایا کہ وہ کون ہے؟ (دوستوں قبیلہ کے لوگوں) کو میرے پاس لاؤ۔ لوگوں پر
 ندا کی گئی۔ (جب سب جمع ہو گئے) تو آپ نے سارا بیت المال کا مال انہیں دے دیا۔ اور
 اس وقت وہ فرماتے تھے اے چاندی اسے سونے تم میرے غیر کو فریب دینا۔ میں تمہارے
 فریب دہی میں نہ آؤں گا۔ اور آپ نے یہاں تک تقسیم کیا کہ ایک درہم نہ اچھا دینا پاتی
 رکھا۔ پھر وہاں پانی چھڑکنے کا حکم فرمایا اور اس جگہ دو رکعت نماز پڑھی تاکہ وہ زمین
 قیامت کے دن گواہی دے کہ حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ سے ایک درہم تک نہ روکا۔
 عبدالعزیز بن زین کہتے ہیں کہ میں حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ کے پاس شہداء اللہ کے دن حاضر ہوا۔ آپ نے
 میری طرف گوشت کا چھیم نزدیک کیا۔ میں نے کہا اے امیر المؤمنین! اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ

مال متاع آپ کو عنایت فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسے با زین میں لے کر رسول خدا
 سے سنا ہے۔ فرماتے تھے اللہ کے مال میں سے خلیفہ کے لئے دو پیالوں کے سوا کہ ایک توڑ
 اور اس کا اہل و عیال کھائے اور دوسرا پیالہ مہمانوں کے لئے رکھے۔ اور کچھ حلال نہیں۔
 سندہ امام احمد میں سوید بن نضہ سے روایت ہے کہ میں حضرت علی کے پاس اس محل یعنی
 دار الامارۃ میں آیا۔ اس وقت آپ کے پاس ایک جوئی روٹی اور ایک دو دوہ کا پیالہ رکھا
 تھا۔ روٹی ایسی خشک تھی کہ کبھی تو اسے آپ ہاتھوں سے توڑتے اور کبھی گھٹنوں پر مار کر
 توڑتے تھے۔ اُن کی یہ حالت مجھ پر بہت گراں گذری۔ آپ کی ایک لونڈی تھی جس کا فتنہ
 نام تھا۔ میں نے اس سے کہا کیا تو اس شیخ پر رحم نہیں کرتی اور ان کے لئے جو چھان کر
 روٹی نہیں پکاتی۔ کیا تو ان کی مشقت اور جس چیز سے انہیں رنج ہوتا ہے۔ ان کے چہرے میں
 نہیں دیکھتی۔ لونڈی نے جواب دیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس میں اجر ملتا ہے۔ اور ہم گنہگار
 ہوتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے ہم سے عہد لے لیا ہے کہ اُن کا کھانا چھان کر کبھی نہ پکاویں۔
 اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے ابن نضہ تو اس لونڈی سے کیا
 کہہ رہا ہے۔ میں نے اپنی گفتگو کی خبر دے کر عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین اپنے نفس پر
 رحم فرمائیے۔ اور اسے اتنی مشقت میں نہ ڈالئے۔ آپ نے فرمایا اے سوید تجھے خرابی ہو
 رسول خدا صلعم اور ان کے اہل نے تین دن تک برابر گھون کی روٹی سے پیٹ نہ بھرا۔
 یہاں تک کہ اللہ سے ملاقات کی۔ اور کبھی آپ کے واسطے کھانا چین پھٹکر نہ پکایا گیا۔

حضرت کا ہفتے روایت ہے کہ ایک دفعہ بینہ میری سمجھتا ہوں کہ لگی میں مزدوری کا دھونڈا ہوا حضرت کا ایک رات ہی کے
 ڈھیلے جمع کر کے انہیں بھگو تا چاہتی تھی۔ میں نے اُس سے ایک ڈول پر ایک کھجور چکانی اور سولہ
 ڈول کھجور اُس مٹی کو ترک کر دیا۔ یہاں تک کہ میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ میں نے کھجوریں
 لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس لڑکی خردی۔ آنحضرت نے بھی اُس میں سے نوش جان
 فرمائی۔ ہارون بن عثرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور وہ
 خورنق میں (ایک معروف نل کا نام ہے) جاڑے کی موسم میں کانپ رہے تھے۔ اور اُن پر ایک پُرانی
 چادر پڑی تھی۔ میں نے کہا اے امیر المؤمنین آپ کے اور آپ کی اہل کے واسطے اس بیت المال
 ایک حصہ اللہ نے مقرر فرمایا ہے۔ اور آپ اپنی ذات کے لئے کرتے ہیں جو کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی
 فرمایا فدائی قسم میں تمہارا تو مالوں سے راضی نہیں۔ میں نے اپنے لئے کچھ بھی مقرر نہیں کیا۔ وہ
 یہ میری وہی چادر ہے۔ جسے میں بدینہ سے لیکر اپنے ساتھ لکھا تھا۔

امام احمد ابوالمطرف سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کو
 دیکھا کہ ایک تنگی کا تہ بند اور ایک چادر اڑھٹھے ہوئے اور ایک درہ اپنے ساتھ لئے ہوئے بدوی اور
 اعرابی کی طرح بازاروں میں پھر رہے تھے اور ٹہلتے ٹہلتے نمازی کے بازار میں پہنچے پھر ایک بوڑھے
 شخص کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا اے شیخ تو تین درہم کے عوض اس کرتے کو مجھ سے بیچ کر لے لیا
 ہے۔ اُس نے آپ کو پہچان کر کہا جی ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو گیا کہ اُس نے بیچے پہچان لیا
 ہے۔ آپ اسے چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے۔ اور اُس سے کچھ نہ خریدا پھر ایک نوجوان لڑکے کے

پاس آکر تین درہم کا اُس سے ایک گرتا خرید اس کے گلاب آیا تو اُس نے اُس کی خبر دی
 کہ ایک شخص نے مجھ سے تین درہم کا ایک گرتا خرید لیا ہے اور اُس کی ایسی ایسی صورت ہے۔
 وہ شخص ایک درہم لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آکر کہنے لگا اے امیر المؤمنین یہ درہم اُس کرنے
 کی قیمت سے زائد ہے۔ آپ اسے لے لیجئے۔ کیونکہ میرے لڑکے قیمت میں غلطی کی۔ اُس کی
 قیمت تو وہی درہم تھی۔ آپ نے فرمایا اے شیخ اس درہم کو تو ہی لے جا۔ کیونکہ اُس نے
 میری خوشی سے بڑھتی بیع کی ہے۔ اور میں نے اُس کی خوشی سے یہ گرتا لیا ہے۔

عمر بن قیس کہتے ہیں حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ پرا ایک پوند دارتہ بند دیکھ کر لوگوں نے اس
 باب میں عتاب کیا۔ آپ نے فرمایا اس قلب عاجزی میں رہتا اور اس کے ساتھ مومن اقتدا
 کرتے ہیں۔ اسے سفیان ثوری نے نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اُس کپڑے کو جو
 انجلیوں کی طرف ہوتا ہے۔ یعنی آستینوں کو پھاڑ ڈالا کرتے تھے۔

امام احمد ابو موسیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پرا ایک گرتا تین درہم کی قیمت کا اُس نے
 دیکھا اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے گرتا خرید کر پہنا اور پہنچوں اور ٹخنوں سے جو
 زائد تھا اسے گرتا اور فرمایا۔ سب تعریف اُس فدا کے لئے ہے جس نے ایسا لباس زینت
 مجھے عطا فرمایا۔ جس سے میں لوگوں میں متجمل کرتا اور اپنی شرم گاہ کو ڈھانکتا ہوں۔ لوگوں
 نے یہ بات سن کر آپ سے پوچھا کیا تم یہ اپنی طرف سے روایت کرتے ہو۔ یا رسول خدا صلعم
 سے۔ فرمایا۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ بلکہ رسول خدا صلعم سے سنا ہے۔

علی بن الاقر اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علیؑ کو کرم اللہ وجہہ کو بازار میں تلواریں
 بیچتے ہوئے دیکھا۔ آپ کہہ رہے تھے اس تلوار کو کون خریدتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس نے
 فاتہ پیار کو اُگایا۔ اور جان کو پیدا کیا۔ میں نے اس تلوار سے بہت زمانہ تک رسول خدا صلعم
 کے چہرہ مبارک سے رنج و فکر دور کیا ہے۔ اگر میرے پاس ایک ازار کی قیمت ہوتی تو میں اسے
 بیچتا۔ عمرو بن یحییٰ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ کے واسطے شہد
 اور روغن کی کئی مشکیں بھیجی گئی تھیں۔ ایک دن کے بعد جو آپ نے دیکھا تو ان میں سے
 کچھ کم ہو گیا تھا۔ آپ نے دریافت کیا کہ یہ مشک کم کیوں ہوئی۔ گھر والوں نے عرض کی کہ
 اس میں سے کچھ لے کر ام کلثوم (آپ کی صاحبزادی) کو بھیج دیا ہے۔ آپ نے شہد کی قیمت پانچ
 درہم لگا کر ان کے پاس کسی کو بھیجا۔ اور قیمت لے کر فرمایا کہ یہ تمام مسلمانوں کا حق ہے۔
 عمرو بن یحییٰ قبر سے روایت کرتے ہیں کہ بیت المال میں شہد کی مشکیں آئیں۔ حضرت حسنؑ
 حضرت علیؑ کے بڑے صاحبزادے نے فرمایا اسے قبر جا اور بیت المال کی شہد میں سے میرے
 حصہ کی مقدار میرے پاس لے آ کیونکہ میرے پاس ایک مہان آیا ہے اور اس کے کھانے کو
 میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جب امیر المومنین شہد تقسیم کریں گے تو میرے حصہ کی
 مقدار میں سے لے کر بیت المال کا حق ادا کرو کیو۔ قبر ان مشکوں میں سے ایک مشک
 کے پاس آیا۔ اور اس میں سے ایک دھل کی مقدار لے لیا۔ اس کے بعد حضرت علیؑ کرم اللہ
 بیت المال میں آئے۔ اور اس مشک میں کتنی دیکھ کر فرمایا اے قبر تجھے خرابی ہو۔ یہ کیا ہوا

وہ آپ سے چیلہ اور بہانہ کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم سچ بات کہو کہ کیا ہے معاملہ؟
 سچ سچ آپ کو بتا دیا۔ آپ کو سخت غصہ آیا۔ اور فرمایا میرے پاس حسن کو لانا اور وہ آئے اور
 آتے ہی آپ کے قدموں میں گر پڑے اور فرماتے لگے بطفیل میرے چچا جعفر کے آپ مجھے بتا دیا
 کیجے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قاعدہ تھا کہ جب جعفر کا واسطہ دیا جاتا تو آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا۔
 پھر آپ نے فرمایا مسلمانوں کی شہد لینے پر تجھے کس چیز نے برا لکھتے کیا۔ حالانکہ وہ ابھی تقسیم
 نہ ہوا تھا۔ حسن نے عرض کیا کیا میرا اس میں کوئی حق نہ تھا۔ فرمایا سب مسلمانوں سے
 پہلے ہی تو اس سے کیوں نفع حاصل کرنے لگا۔ خدا کی قسم اگر میں رسول خدا صلعم کو تیرے
 دانتوں کا بوسہ لیتے نہ دیکھتا تو تجھے ضرور دردناک مار مارتا۔ جا کھڑا ہوا اور اس کے عوض
 شہد خرید کر مشک میں ڈال۔ حسن نے ایسا ہی کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے مسلمانوں
 کو بانٹ دیا۔ اور رو کر فرمایا خداوند احسن کو بخش دے۔ کیونکہ وہ اسے نہ جانتا تھا۔ بیشک
 ہم رسول خدا کے ساتھ ہو کر اپنے بھائیوں اپنے بیٹوں۔ اپنے چچاؤں اپنے اہل کو قتل
 کرتے تھے۔ اور اس سے صرف خدا کی رضامندی چاہتے تھے اور ہم میں ایک مرد ہوتا تھا کہ
 وہ خدا اور رسول کو اپنی جان پر اختیار کرتا تھا۔ جب خدا تعالیٰ نے ہمارا ایسا سچا بھٹا
 دیکھا تو ہمارے دشمنوں پر ہلاکت اور ذلت اتاری۔ اور ہم پر مدد و نصرت۔ یہاں تک کہ سلا
 نے راحت پائی۔ اور اپنے مواضع میں ساکن ہوا۔ خدا کی قسم اگر ہم بھی وہ کام کرتے جو تم آج
 کرتے ہو تو دین کا ستون کبھی قائم نہ ہوتا۔ اور ایمان کی شاخ کبھی سبز نہ ہوتی۔

ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت علیؑ کوئی چیز نہ کھاتے تھے مگر وہ چیز جو آپ کے پاس مدینہ سے آتی تھی۔ ایک دن آپ کے آگے فالودہ رکھا گیا۔ آپ نے نہ کھایا۔ میں نے عرض کیا یہ حرام ہے۔ فرمایا حرام تو نہیں مگر میں اپنے نفس کو ایسی چیز کے ساتھ خوگر کرنا مکروہ جاننا ہوں جس کا وہ معتاد نہیں۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہ کھایا ہو۔

ابن النوار نیراز سے روایت ہے کہ حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ نے ایک درہم کی کھجوریں خریدیں اور اپنی چادر میں انہیں اٹھائے ہوئے چلے جاتے تھے۔ ایک شخص نے عرض کیا میں اسے اٹھا کر پونچا دوں۔ فرمایا کچھ ضرور نہیں۔ (ابو العیال) حضرت علیؑ کی ذات مراد ہے) اپنی حاجت کا بوجھ اٹھانے کا زائد مستحق ہے۔ راوی کہتا ہے اُس زمانہ حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ سنبلائیہ کپڑے پہنا کرتے تھے۔ اور وہ ایک قسم کے موٹے اور سخت کپڑے تھے۔ جو آپ دو درہم یا تین درہم کو خرید کر کے پہنتے اور فرماتے تھے۔ سب تعریف اُس خدا کو ہے جس نے مجھو ایسا کپڑا پہنایا کہ جس سے میں شرم گاہ ڈھانگتا ہوں۔ اور اُس کی مخلوق کے آگے اُس سے زینت کرتا ہوں۔ حسن بن موسیٰ المرادی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ کو اس محل بیٹے کو فد کے محل سے نکلتے دیکھا کہ وہ ایک تہ بند ادھی پنڈلیوں تک باندھے ہوئے اور ایک چادر اس کے قریب قریب اوڑھے ہوئے تھے۔ اور آپ کے پاس ایک ورہ تھا جسے بازاروں میں لے کر پھرتے چلتے تھے اور فرماتے تھے اے میری قوم اللہ سے ڈرو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ انہیں حسن بیع کے ساتھ حکم فرماتے اور کہتے مپان اور تول کو پورا کر دو۔ گوشت بچھا کر نہ رکھو۔ اور

ایک روایت ہے کہ حضرت علیؑ ہم کو یا بھلے ہوئے شخص کو راہ پر لگا دیتے تھے اور
 مزدوروں کی بوجھ اٹھانے میں مدد کرتے۔ اور یہ آیت **تلك الدار الاخرة نجعلها للذين
 لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا** پڑھ کر فرماتے یہ آیت سرورِ ارض اور قدرت
 والوں کے حق میں اتری ہے۔

ابوالنوار کہتے ہیں کہ میں حضرت علیؑ کو ایک درزی کے پاس کھڑا دیکھا۔ آپ نے
 اسے فرمایا اے درزی تاگا مضبوطی اور درز باریک کر سوئی قریب قریب نکال کیونکہ میں نے
 رسول خدا کو فرماتے سنا ہے۔ کہ قیامت کے دن خیانت کرنے والا درزی اس حال میں لایا جاوگا
 کہ جو کرتا اور چادر اس نے سیاہی اور اس میں خیانت کی ہے وہ اس پر پڑا ہوگا۔ پھر تمام مخلوق
 کے سامنے رسوا ہوگا۔ اس کے بعد حضرت علیؑ نے فرمایا اے درزی بچے ہوئے کپڑوں اور گری
 ہوئی کتروں سے اپنے لئے کچھ مت بچا کیونکہ کپڑے کا مالک اس کا بہت ہی وارث ہے۔ اس شخص
 سے کہ اُسے قیمت سے لیتا ہے جس کے ساتھ دنیا میں مکافات طلب کی جاتی ہے۔ اس امر کو
 احمد بن عبدالرزاق نے روایت کیا ہے۔

ابی ابراہیم کہتے ہیں کہ حضرت علیؑ کے پاس ایک سائل آیا آپ نے کسی صاحبزادے کو فرمایا کہ اپنی
 ماں کے پاس جا کہہ دو کہ وہ درہم جو تمہارے پاس ہے ویداؤ۔ وہ لڑکا گیا اور اسی وقت واپس آکر
 کہنے لگا وہ فرماتی ہیں کہ ہم نے اسے آئے کہ لئے اٹھا رکھا ہے۔ فرمایا نہیں جا اور وہ درہم لے
 پھر وہ گیا اور واپس درہم لے کر آیا۔ آپ نے اس سے وہ درہم لے کر فقیر کو دے دیا اور فرمایا

بندہ کا بھی سچا اعتقاد نہیں ہوتا۔ تا وقتیکہ جو چیز اللہ کے پاس ہے وہ اس چیز سے جو اس کے پاس ہے زیادہ بھروسہ کی ہو۔ راوی کہتا ہے کہ اسی اثنا میں آپ کے پاس ایک شخص کا جو اونٹ چٹا تھا گنڈ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سو درہم کو ایک اونٹ اس سے خرید کر دو سو کو چم ڈالا اور سو درہم اپنے فرزند کو دے کر فرمایا تو یہ اپنی والدہ کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو یہ وہ چیز ہے جس کا وعدہ اپنے رسول خدا کی معرفت ہم دے گئے ہیں۔ چنانچہ آنحضرت اپنے پاک اور بزرگ پروردگار کی طرف سے فرماتے ہیں۔ من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ابوار کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دن عید گاہ میں پیدل جاتے تھے اور کسی سواری پر سوار نہ ہوتے تھے۔

امام احمد اپنی مسند میں حصین بن منذر بن عارث سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسے حسن کھڑا ہو اور ولید کو جہاڑ۔ انہوں نے کہا آپ کو اس سے کیا شلہ تہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بلکہ تم عاجز اور کاہل ہو۔ اسے عبد اللہ بن جعفر تم اٹھ کر اسے مد لگاؤ۔ وہ اٹھنے اور اس پر مد لگائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ شہار کرتے چلے جاتے تھے۔ عبد اللہ بن جعفر تیب چالیس تک پیونچے تو آپ نے فرمایا بس کرو۔ پھر کہا رسول خدا صلعم نے چالیس ہی کوڑے اس کی مد لگائی ہے۔ اسی طرح چالیس ہی درہم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لگائے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابتدا و خلافت میں تو چالیس کوڑے لگائے۔ مگر پھر انہوں نے پورا اٹھی کر دیا۔ اور سب کی سب سنت برحق ہے۔

مسند امام احمد اور نسائی میں ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کریم اللہ وجہہ فرماتے ہیں۔ مجھ سے رسول
صلعم نے فرمایا اسے علی بن ابی طالب نے جنت میں ایک بڑا محل ہے اور تو اس کا مالک ہے۔

صحیح بخاری میں ابو عازم سے روایت ہے کہ ایک شخص نے سہل بن سعد سے آکر کہا۔ اس
کے امیر کو کیا ہوا ہے کہ وہ منبر پر چڑھ چڑھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ و طعن کرتا ہے۔ سہل نے پوچھا

وہ کیا کہتا ہے۔ کہا ابو تراب کہتا ہے۔ یہ سن کر سہل ہنسے۔ پھر کہا بخدا یہ اُن کا نام تو نبی صلعم
نے رکھا ہے۔ آنحضرت کو اس سے زیادہ اور کوئی نام محبوب نہیں تھا۔ ابو عازم کہتے ہیں

کہ میں نے سہل سے اس حدیث کی تفسیر طلب کی اور کہا اسے ابو العباس یہ کیونکر ہے
جواب دیا۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے۔ پھر وہاں سے نفا ہو کر

مسجد میں آکر لیٹ رہے۔ اتنے میں رسول خدا صلعم تشریف لائے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا
تمہارے چچا کا بیٹا کہاں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بولیں کہ مسجد میں ہیں۔ آنحضرت اُن کے

پاس آکر کیا دیکھتے ہیں کہ پیٹھ پر سے چادر گری پڑی ہے اور پیٹھ کو مٹی لگی ہوئی ہے۔
آنحضرت اُن کی پیٹھ سے مٹی پوچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے اسے ابو تراب اٹھو۔ دو

مرتبہ یہ ہی فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دوسری کنیت ابوالریحان ہے۔ چنانچہ کتاب سوار النبوة
میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دو کنیتوں کے ساتھ مشہور تھے۔ ایک ابو تراب دوسری

ابوالریحان۔ ابو تراب کی وجہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ اور ابوالریحان کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر
نے اپنے انتقال سے تین روز پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا اسے ابوالریحان میں لکھ

پہلے دور میں ان (پھول یا فرزندان) کی مخالفت اور پرورش کے باب میں وصیت کرتا ہوں۔ اور اب وہ وقت عنقریب آیا ہے کہ تیرے دو رکن شکست ہو جائیں پس مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ نے رسول خدا صلعم کے انتقال کے بعد کہا یہ پہلا میرا رکن شکستہ ہوا۔ اور حضرت فاطمہؑ کے انتقال کے بعد فرمایا یہ دوسرا میرا رکن ٹوٹا اور رسول خدا صلعم کا فرمانا سچ ہوا۔

مگر وہ ابن عباس سے اور شعبی ابوارا کہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب امیر المومنین حضرت علیؑ شہر انباریا کو فہ سے نواح سے جہاد کرنے کے لئے شہر نہروان میں رجوع کرنے لگے تو ان کے ساتھ ابن عوف بن امرے بھی سفر کیا۔ اور یہ شخص تارون میں خوب غور کرتا تھا۔ یعنی علم نجوم میں کامل استعداد رکھتا تھا۔ حضرت علیؑ سے کہنے لگا۔ اے امیر المومنین آپ اس وقت سفر نہ کریں۔ جب تین ساعتیں دن میں باقی رہیں تب تشریف لے چلیں۔ حضرت علیؑ نے فرمایا کیوں۔ کہا اگر آپ اس ساعت میں سفر کریں گے تو آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بلا اور سختی پہنچے گی۔ اور اگر تیسری ساعت میں سفر کریں گے تو فتحیاب ہوں گے۔ حضرت علیؑ نے فرمایا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ ہی پر مسلمانوں کو بھروسہ کرنا چاہئے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلعم کو فرمایا کہ اے محمدؐ ان سے کہہ دو میں اپنی جان کے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ مگر جو خدا چاہے اور اگر میں غیب کی بات جانتا تو بہت سے بھلائیاں جمع کر لیتا اور مجھے کبھی برائی نہ پہنچتی اور میں نے خود رسول خدا صلعم سے سنا فرماتے تھے۔ جو منہم یا کاہن کی تصدیق کرے تو جو چیز پر آتا را گیا ہے اس نے اسے

جھٹلایا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ کافر ہو گیا۔ نیز رسول خدا کو میں نے یہ فرمایا ہے کہ میں اپنی امت پر دو چیز سے خوف کرتا ہوں۔ ایک نجوم کی تصدیق اور دوسرے قدر کی تکذیب سے۔ پھر فرمایا کہ محمد صلعم کے لئے اور نہ ان کے پیچھے خلفاء کے لئے کوئی بخومی تھا۔ پھر اس بخومی سے فرمایا کیا تو جانتا ہے کہ میرے اس گھوڑے کے پیٹ میں کیا ہے؟ اس نے کہا اگر میں حساب لگاؤں تو معلوم کروں۔ فرمایا جس شخص نے تیرے اس قول کو سچا جانا اس نے قرآن کو جھٹلایا۔ حق تعالیٰ تو یوں فرماتا ہے کہ الہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ اور وہی بیٹھ برساتا ہے اور جو ماووں کے رحم میں ہے اسے وہی جانتا ہے۔ جس چیز کے علم کا تو نے دعویٰ کیا ہے۔ اس کا دعویٰ کبھی محمد صلعم نے بھی نہیں کیا۔ جو شخص تیرے قول کی تصدیق کرے گا گویا اس نے خدا کے سوا اور شریک ٹھہرایا۔ اب اور تیری فال کے سوا کوئی اور فال نہیں اور تیرے پاس بھلائی ہے۔ اور تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ پھر فرمایا اے ابن احمد ہم تیری تکذیب کرتے اور تیری مخالفت کر کے جس ساعت میں تو نے منع کیا ہے۔ اسی میں ہم سفر کرتے ہیں۔ پھر لوگوں پر متوجہ ہو کر فرمایا اے لوگو نجوم کے سیکھنے سے بچو۔ ہاں اس قدر جس سے دیا اور جنگل کی راہ معلوم کر سکو۔ کچھ مضائقہ نہیں۔ بخومی کا فال کفر ہے۔ اور کافر کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اسے ابن احمد اس کے بعد اگر مجھے خبر ہوئی کہ تو نجوم میں بخور و فکر کرتا اور اس پر عمل درآمد کرتا ہے تو تجھے مفتی جیسے ضرور دیکھا جاتا گا۔ اور جب تک میں اسے زندہ اور باقی رہاں گے۔ ہمیشہ قید میں رکھوں گا۔ اور جب تک میں زندہ رہوں گا۔ باوجود میری

حکومت رہے گی تو تجھ پر اپنے چیلے اور صلے حرام رکھوں گا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ اس عت
 میں جن میں اُس نے چیلے سے منع کیا تھا نکل کھڑے ہوئے۔ اور فارسیوں اور اُن کے یاروں
 پر فتیابی ہوئی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم نے کسری قیصر و تیج و حمیر کے شہر اور اُن کے علاوہ
 اور بہت سے ملک بدوں قول منجم کے فتح کئے۔ اسے لوگوں نے دیکھا تو کل کرو۔ اور اسی سے ڈرو۔ اور
 اسی پر بھروسہ کرو۔ اگر ہم اُس ساعت میں جس کی طرف نجومی نے اشارہ کیا تھا نکلے تو لوگ
 کہنے لگتے ہمیں نجومی کے قول سے منع ہوئی۔ اللہ پر بھروسہ کرو اور جانو کہ یہ تارے آسمان کے چراغ
 ہیں جو آسمان کی زینت اور شیطانوں کی رجم کے لئے بنا گئے ہیں۔ اور اُن کے سبب سے دنیا
 اور جنگل کے اندھیرے میں لوگ رستہ پاتے ہیں اور نجومی پیغمبروں کے مخالف ہوتے ہیں۔
 جو کچھ خدا تعالیٰ کے پاس ہے وہ لائے ہیں یہ اُس کی تکذیب کرتے ہیں۔ اور قرآن و شرع
 کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں۔ بظاہر اسلام کا اظہار کرتے اور دہرے پیغمبروں سے تمسخر اور
 ٹھٹھا کرتے ہیں۔ انہیں لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اُن میں سے اکثر اللہ پر
 ایمان نہیں لائے۔ مگر شرک پر مہم کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ابن امیر نے زفر
 علی رضی اللہ عنہ سے کہا اے امیر المؤمنین اس ساعت میں سفر کیجئے۔ فرمایا کیوں کہا اس وقت قمر برج
 مقرب میں ہے۔ فرمایا ہمارا قمر یا اُن کا۔ اور یہ بہت عمدہ جواب ہے۔
 امام احمد شریح بن حمید سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس حبیب وہ عراق میں تھے
 شایہوں کا ذکر ہوا۔ اُن سے کہا گیا کیا ہم اُن پر لاشت نہ کریں۔ فرمایا نہیں۔ میں نے رسول خدا

کو فرماتے سنا ہے کہ ابدال شام میں ہیں۔ اور وہ پالین شخص ہیں۔ جب ان کا ایک آدمی
 مر جاتا ہے تو اس کی جگہ ایک اور شخص معین ہوتا ہے۔ ان کے طفیل سے مینہ برستا ہے۔ اور
 دشمنوں پر مدد و نصرت کی جاتی ہے۔ اور انہیں کی وجہ سے اہل شام سے عذاب و فحشیت
 جاتا ہے۔

مسند بزار میں ابو قتادہ سے روایت ہے۔ کہ ہم ساکھ ستر آدمی اہل نروان کی لڑائی میں
 امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ اور میں پیادوں کا سردار تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خوارج
 کو قتل کیا۔ اتفاق سے میں خارجیوں کے کئی مقتولوں پر کھڑا ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا
 ان لوگوں کو پٹو۔ ہم نے انہیں اونڈھا ڈال دیا۔ ان میں سے ایک کالا آدمی تھا۔ جس کے
 ایک مونڈھے پر چھاتی کی ٹنڈی جیسی ایک گوشت کی بوٹی تھی اسے دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے
 فرمایا۔ اے ابراہیم خدا کی قسم میں کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ مجھے کسی نے پہنڈایا۔ میں ایک دن
 رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اور آپ جنین کی نمینیں تقسیم کر رہے تھے۔ یہ کالا آدمی جو مرا پڑا
 ہے آ کر کہنے لگا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرو۔ خدا کی قسم آج آپ نے انصاف نہیں کیا۔ رسول خدا
 نے فرمایا تیری ماٹھ رووے۔ اگر میں انصاف نہ کروں گا تو اور کون کرے گا۔ ابن الخطاب نے
 فرمایا آپ مجھ چھوڑ دیجئے کہ اس منافق کی گردن ماروں۔ رسول خدا نے فرمایا جانے دو
 اس کا قاتل ایک محض شخص ہے۔ جو اسے قتل کرے گا۔ اور یہ ایک گروہ کے ساتھ ہوگا
 گروہ کی پہچان یہ ہے کہ ان میں ایک کالا مرد ہوگا۔ اس کے ایک بازو پر عورت کی چھاتی

جیسا گوشت لوتھرا ہوگا جو ہر وقت جنبش کیا کریگا۔ وہ آدمیوں کے بہتر فرقہ پر فروع کریں گے
 (یعنی حضرت علی المرتضیٰؑ سے باغی ہوں گے) ابو سعید کہتے ہیں میں اس بات کی گواہی دیتا
 ہوں کہ یہ حدیث میں نے رسول خدا سے سنی ہے۔ اور اس کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ
 حضرت علی ابن ابی طالبؑ نے ان سے جہاد کیا۔ اور میں ان کے ساتھ تھا۔ حضرت علیؑ نے
 اس مرد کی تلاش کرنے کا حکم دیا۔ وہ لایا گیا حتیٰ کہ جو اس کی صفت رسول خدا نے بیان
 فرمائی تھی وہ میں نے اس میں دیکھی۔

حضرت علی رضی فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلعم پیر کے روز بیہوش ہوئے اور میں منگل کے دن
 اسلام لایا۔ اسلام لانے کے وقت میری عمر دس برس کی تھی۔ حسن بن زید بن حسن کہتے
 ہیں کہ حضرت علی رضی نے کبھی بتوں کی پرستش نہ کی۔ کیونکہ لڑکپن میں اسلام لائے۔
 ابن سعد کہتے ہیں کہ جب رسول خداؐ مدینہ میں ہجرت کی تو حضرت علی رضی کو حکم فرمایا کہ
 آپ کے پیچھے چند روز مکہ میں مقیم رہیں یہاں تک کہ جب آپ کی طرف سے امانتیں اور ودائع
 اور وصیتیں جو رسول خداؐ کے پاس تھیں ادا کریں تو پھر اپنے لوگوں میں آئیں۔ حضرت
 علی نے ایسا ہی کیا۔ اور وہ رسول خداؐ کے ساتھ بدر اور احد اور کل مشاہد میں حاضر ہوئے مگر
 تبوک میں اس وجہ سے غیر حاضر رہے کہ نبی صلعم نے مدینہ میں اپنے پیچھے چھوڑا تھا۔ اور ان
 کے لئے تمام مشاہد میں آثار جمیلہ تھے۔ اور نبی کریم صلعم نے انہیں بہت جگہ نشان دیا۔
 ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب فرمایا کرتے تھے کہ حضرت علی رضی سب میں بڑھیا فاضلی

میں۔ اور یہی ابن مسعود فرماتے تھے۔
 ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی ثقہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتا تو ہم اس سے تجاوز
 نہ کرتے تھے۔ سعید بن المسیب سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب اس مشکل قضیہ میں
 جس میں ابو الحسن (حضرت علی رضی اللہ عنہ) کی رائے نہ ہوتی اللہ سے پناہ مانگتے تھے۔ سعید بن المسیب
 کہتے ہیں کہ حضرت علی کے سوا صحابہ میں اور کوئی ایسا نہ تھا جو سلوئی (پہلے سے پوچھو) کہتا ہو۔
 ابن عساکر ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ سارے بدینہ والوں میں سے علم و اذہن میں
 دانا تر اور قاضی زیادہ حضرت علی بن ابی طالب تھے۔ حضرت عائشہ کے پاس جب حضرت علی
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا تو فرمایا کہ وہ سنت کو خوب جانتے ہیں۔ ان لوگوں سے جو
 اب باقی ہیں۔ مسروق کہتے ہیں رسول خدا صلعم کے تمام صحابہ یوں کا علم حضرت عمر و علی رضی
 اللہ عنہما کی طرف منتہی ہے۔ سعید بن المسیب بن ابی ربیع کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی
 اللہ عنہ وہ شخص ہیں جو تم پر پہنچے۔ علم میں مضبوطی اور اتقان۔ سارے کتب میں فضیلت۔
 اسلام میں قدامت۔ رسول خدا کی دعاوی۔ سنت میں تقاضا۔ اور انہی میں دلیری۔
 مال میں سخاوت حاصل تھی۔

ابن سعید کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا بخدا جو کتب قرآن مجید میں اترتی ہے میں اسے جانتا ہوں
 کہ کس باب میں اور کہاں اور کس شخص پر اترتی ہے۔ اور پہلے سے کتاب اللہ کی تفسیر پوچھو کیونکہ کوئی
 آیت ایسی نہیں جسے میں نہ پہچانتا ہوں خواہ وہ دن میں اتری ہو یا رات میں۔ نرم زمین میں یا پہاڑ میں

ابن عباس سے روایت ہے کہ جس قدر حضرت علیؑ کے حق میں کتاب اللہ اتری ہے اتنی کسی کے باب میں نہیں اتری۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت علیؑ کے باب میں تین سو آیتیں اتری ہیں۔ ہزار حدیث سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خداؐ نے حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میرے اور میرے سے سو کسی کو حلال نہیں کہ اس مسجد میں جہنی ہو۔ طبرانی اور حاکم ام سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول خداؐ کسی پر غصہ ہوتے تو حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ کے سوا کسی کو یہ جروت نہ ہوتی کہ آپ سے کلام کرے۔

طبرانی اوسط میں ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ میں اٹھارہ ایسی خصلتیں تھیں جو اس امت میں اور کسی کے لئے نہ تھیں۔ ابو یعلیٰ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا حضرت علیؑ کو تین ایسی خصلتیں دی گئی ہیں کہ ان میں سے میرے لئے ایک خصلت کا بھی ہونا سیرخ اونٹوں کے دئے جانے سے بہت محبوب ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا خصلتیں ہیں فرمایا (۱) رسول خداؐ کا اپنی بیٹی فاطمہؑ کا ان سے نجات کرنا۔ (۲) اور مسجد میں انہیں بسانا۔ وہاں ان کے لئے وہ چیز حلال تھی جو کسی کے لئے حلال نہیں۔ (۳) خیر کے دن انہیں جھنڈا دینا۔

طبرانی اوسط میں ام سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خداؐ صلعم فرماتے تھے۔ علیؑ قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علیؑ کے ہمراہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ میرے پاس توفیٰ کو ترپراؤں۔

جب شام میں حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ اور معاویہؓ میں سخت لڑائی ہوئی اور مقتولوں کی تعداد تیرہ ہزار تک پہنچی۔ پھر نوارج میں سے تین آدمی عبدالرحمن بن ملجم مرادی اور ربیع بن عبد اللہ اور

عمرو بن بکیر مکہ میں جمع ہو کر باہم عہد و پیمانہ کیا۔ اور علی بن ابی طالب اور معاویہ بن ابی سفیان
 اور عمرو بن العاص کے قتل کے لئے بیڑا اٹھایا کہ انہیں قتل کرنا چاہئے تاکہ لوگ ان سے راحت پائیں
 ابن بلعم بولایں علی رضی اللہ عنہ سے سمجھ لوں گا۔ اور برک بولایں معاویہ کو کافی ہوں۔ ابن بکیر نے کہا
 میں عمرو بن عاص کو لے ڈالوں گا۔ رمضان کی سترہویں شب میں یہ عہد قائم ہو کر ان میں سے
 ہر ایک شخص اس شہر کی طرف چل نکلا۔ جس میں اس کا صاحب تھا۔ ابن بلعم تو کوفہ میں آیا اور
 اپنے اصحاب خواجہ سے ملا۔ رمضان کی سترہ تاریخ شب جمعہ منگھڑی میں ان خارجیوں سے ہوا
 امر میں مشورہ کیا۔ اسی رات کو صبح کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ جاگے اور اپنے بڑے صاحبزادے
 حسن سے فرمایا۔ میں نے آج کی رات رسول خدا کو خواب میں دیکھا ہے۔ میں نے کہا اے
 رسول خدا میں آپ کی امت سے سونت جھگڑے اور کجی میں ہو چکی۔ فرمایا ان پر اللہ سے بددعا
 کر میں لے کہا خداوند اچھ لوگ ان سے بہتر میں انہیں میرے لئے بدل دے۔ اور ان کے لہو
 مجھ سے بدتر جو لوگ ہیں انہیں بدل دے۔ اتنے میں ابن النباح موزن لے آکر کہا نماز طیار
 پس حضرت علی رضی اللہ عنہ دروازہ سے نکلے۔ اور الصلوٰۃ الصلوٰۃ کی ندا کرتے تھے۔ ابن بلعم نے آپ کے
 پاس آکر تلوار ماری۔ پیشانی سے سر کے گیسو تک ہو چکی اور دماغ تک چلی گئی۔ لوگ اس پر
 ہر طرف سے دوڑ پڑے اور پکڑ کر مشکیں یا نذھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جمعہ اور ہفتہ تک زندہ رہے
 اور اتوار کی رات کو انتقال فرمایا۔ حضرت حسن و حسین اور عبدالعزیز بن جعفر نے آپ کو غسل
 دیا اور حضرت حسن نے نماز پڑھ کر دارالامارہ کوفہ میں رات کو دفن کر دیا۔ پھر ابن بلعم کے ہاتھ

پاؤں کاٹ کر ایک بڑی ٹوکری میں رکھ دیا اور آگ سے جلا کر خاک تر کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر قتل کے تریسٹھ برس کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کوفہ سے لا کر بچھ میں دفن کیا۔

فضالہ بن ابی فضالہ انصاری سے روایت ہے۔ اور ابو فضالہ بدریوں میں سے ہے کہ میں اپنے باپ کے ہمراہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ابن ابی طالب کی اُس مرض میں جو شہادت سے پہلے انہیں لاحق تھی۔ عیادت کے واسطے گیا۔ میرے باپ نے اُن سے عرض کیا اس جگہ جنگلیوں نے آپ کو کس چیز نے ٹھیرا رکھا ہے۔ اگر آپ کو موت کے آثار ہو چیں گے تو مدینہ میں اٹھائے جائیں گے۔ آپ کے پاس آپ کے پاس ہونے چاہئیں۔ اور وہ آپ پر نماز و درود پڑھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول خدا نے مجھ سے اس پر عہد لیا ہے کہ تا وقتیکہ یہ ڈاڑھی اُس سر کے خون سے رنگین نہ ہوگی۔ مجھ کو موت نہ آئے گی۔ ابو فضالہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ شہید ہوئے۔

ابو الفرج بن جوزی ابی الطیغی عامر بن وائل بن الاسقع سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین نے لوگوں کو بیعت کے لئے بلایا پس آپ کے پاس عبدالرحمن بن لخم مراد کا رہنے والا آیا آپ نے دو دو پھیر پھیر دیا۔ پھر وہ آپ کے پاس آیا آپ نے فرمایا اس امت کے بد بخت آدمی کو کس نے روک رکھا ہے۔ ضرور اس ڈاڑھی کو اس سر کے خون سے یہ شخص رنگین کرے گا۔

حجاج ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرات سے سنا سب تعریف اُس خدا کو ہے جس نے ہمارے دشمن کو اس لائق کیا کہ وہ ہم سے اُس قضیہ کو بوجھتا ہے جو امرین میں سے اُس پر اترا ہے معاف یہ نہ لکھا ہے اور وہ ایک ایسے شخص کا جو مشتبہ ہے حال

دریافت کرتا ہے۔ میں نے اُسے لکھ بھیجا کہ وہ اپنے پیشاب گاہ کی طرف سے اُس کا وارث ہوگا
یعنی اگر اُس کی پیشاب گاہ مردوں کی مانند ہے تو مرد کی میراث لے گا ورنہ عورت جیسی۔
ابن عساکر حسن سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تشریف لائے تو ابن کوا اور
قیس بن عبادہ نے آپ کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا آپ ہمیں اس راہ سے جس پر چلتے ہو یعنی
خلافت کی خبر کیوں نہیں دیتے۔ آپ ایسی امت پر والی ہیں کہ اُن میں ایک دوسرے کو آزار
دیدیتا ہے۔ آیا رسول خدا صلعم کا کوئی ذمہ ہے۔ کہ آپ سے امر خلافت میں کیا ہے۔ آپ ہم سے
بیان کیجئے۔ کیونکہ تم نے جو کچھ سنا ہے اُس پر معتد ظلیہ اور امانت دار ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے
فرمایا اگر میرے پاس اس باب میں کوئی عہد ہوتا تو خدا کی قسم میں اول اُن لوگوں کا ہوں
جنہوں نے حضرت کی تصدیق کی ہے تو اب کبھی اول اُن لوگوں کا نہ ہوں گا جو حضرت پر
چھوٹ بولیں۔ اگر میرے پاس رسول خدا صلعم کا اس خلافت میں کوئی عہد ہوتا تو میں بنی تیم
بن مرہ کے قبیلہ اور حضرت عمر بن الخطاب کو کبھی نچھوڑتا کہ آنحضرت کے منبر پر کھڑے ہو کر
خطبہ پڑھیں میں ان دونوں سے بنفس نفیس لڑتا۔ ہاں رسول خدا نہ تو ناگہاں قتل کئے گئے
اور نہ یکایک انہیں موت آئی۔ جس مرض میں آپ نے وفات پائی تو چند رات دن بستر
علالت پر پڑے رہے۔ مومن آپ کے پاس آتا اور نماز کی اطلاع دیتا۔ آپ حضرت ابو بکر رضی
اللہ عنہ کے حکم فرماتے اور میرا مرتبہ آپ پر پوشیدہ نہ تھا ہر چند کہ حضرت کی بیبیوں
میں سے ایک بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے امانت پھیرنی چاہی مگر رسول خدا نے انکا

کیا اور غصہ ہو کر فرمایا تم یوسف علیہ السلام کے مصاحب ہو ابو بکرؓ کو ہی نماز پڑھانے کا حکم کرو پھر
 جب نبی صلعم کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تو ہم نے اپنے کاموں میں غور کیا۔ جسے رسول خدا صلعم نے
 ہمارے دین پر پسند کیا ہم نے اسے اپنی دنیا پر اختیار کر لیا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ نماز اسلام کی جڑ ہے
 اس اعتبار سے حضرت ابو بکرؓ دین کے سردار اور اصل ہیں۔ ہم نے حضرت ابو بکرؓ سے بیعت
 کر لی جس میں اُس کے اہل بھی تھے ہم میں سے دو شخصوں نے کبھی اُن پر اختلاف نہیں کیا اور نہ
 ہم میں کسی نے کسی کے ضرر پر گواہی دی اور یقین نہیں کیا گیا کہ کسی نے اُن سے بیزاری
 چاہی ہو۔ میں نے حضرت ابو بکرؓ کا حق اُن کی طرف ادا کر دیا۔ اور اُن کی فرمانبرداری پہچان کر
 اُن کے ساتھ اُن کے لشکروں میں ہو کر جہاد کیا۔ جب وہ مجھے کچھ دیتے تھے تو میں لے لیتا
 تھا۔ اور جب جہاد کا حکم فرماتے تھے تو جہاد کرتا تھا۔ اور اُن کے آگے اپنے کوڑے سے حد و دفاع
 کرتا تھا۔ پس جب حضرت ابو بکرؓ کا انتقال ہو گیا تو خلافت کا والی حضرت عمرؓ کو بنایا انہوں نے
 بھی اپنے یار کے طریق پر عمل کیا اور جو اُن کا حکم پہچانا گیا۔ اُس پر عمل کیا۔ ہم نے حضرت عمرؓ سے
 بیعت کی اور ہم میں سے دو آدمیوں نے بھی اُن پر کبھی اختلاف نہ کیا۔ اور ہماری ایک نے دوسرے
 کی ضرر پر کبھی گواہی نہ دی۔ اور یقین نہیں کیا گیا کہ کسی نے حضرت عمرؓ سے بیزاری چاہی ہو اور
 میں نے حضرت عمرؓ کا حق انہیں ادا کر دیا اور اُن کی فرمانبرداری پہچان کر اُن کے لشکروں میں
 ہو کر اُن کے ساتھ جہاد کیا۔ وہ مجھے جب دیتے تھے تو میں لے لیتا تھا۔ اور جب جہاد کا حکم کیا گئے
 تو جہاد کرتا تھا۔ اور اُن کے سامنے اپنے کوڑے سے لوگوں پر حدیں قائم کرتا رہا۔ اور جب وہ

وقت ہو گئے تو میں نے اپنے جی میں اپنی قرابت اور بزرگی اور اعمال اور اسلام میں پیش قدمی اور اپنا قدیم الاسلام ہونا یاد کیا اور میں گمان کرتا تھا کہ حضرت عمرؓ خلیفہ کرنے میں پہلے سے تجاوز نہ کریں گے مگر انہوں نے اس بات کا خوف کیا کہ خلیفہ اپنے بعد کوئی گناہ عمل میں نہیں لانا مگر وہ اس کی قبر میں لاحق ہوتا ہے۔ انہوں نے خلافت سے اپنے آپ کو اور اپنے فرزند کو نکال دیا۔ اگر حضرت عمرؓ کی طرف سے بخشش اور عطا ہوتی تو وہ اپنے فرزند کو خلافت کے ساتھ اختیار کرتے۔ مگر وہ قریش کی ایک جماعت کو جس سے ایک نہیں بھی تھا سپرد کر کے بری ہوا ان کے دفن کے بعد جب وہ جماعت اکٹھی ہوئی تو میں نے گمان کیا کہ یہ لوگ مجھ سے تجاوز نہ کریں گے۔ یعنی مجھے ہی خلیفہ بنائیں گے۔ عبد الرحمن بن عوفؓ سے ہم سے اس بات پر عہد لیا کہ جس کو خدا تعالیٰ خلیفہ بناوے ہم اسی کی اطاعت کریں اور سب نہیں۔ پھر انہوں نے حضرت عثمان بن عفانؓ کا نام پکڑ کر اپنا لائحہ ان کے ہاتھ پر مارا پھر میں نے اپنے کام میں غور کیا تو ناگہاں میری فریاد بڑھاری میری بیعت پر سبقت لے گئی تھی۔ اور میرا عہد و پیمان میرے غیر کے لئے لیا گیا تھا۔ اس وقت ہم نے حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ سے بیعت کی اور ان کا حق اطاعت اور فریاد بڑھاری بھی اسی طرح ادا کیا۔ حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کے پیچھے جو میں نے غور کیا تو معلوم ہوا وہ دونوں خلیفہ جنہوں نے رسول خدا صلعم کے عہد سے خلافت کو لیا تھا۔ گذر گئے اور یہ خلیفہ جس کے لئے پیمان ہوا تھا شہید ہو گئے۔ اس وقت زمین اور ان دونوں شہروں کے لوگوں کے لئے میرے ہاتھ پر بیعت کی پھر اس خلافت میں ایک ایسا شخص بیچ میں آگیا تو میری مانند تھا۔ اور اس کی قرابت محمدؐ جیسی قرابت

اور اس کا علم میرا سنا علم اور قدیم الاسلام ہونا مجھ پر ایسا نہ تھا۔ اور اس سے ہر طرح خلافت کا میں
 ہی مستحق تھا۔

ابو نعیم جعفر بن محمد اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی کے سامنے دو شخص کسی
 جھگڑے میں آئے آپ دیوار کی جڑ میں بیٹھ گئے۔ ایک آدمی نے عرض کیا۔ اے خلیفہ دیوار گرتی
 ہے۔ فرمایا تو اپنا کام کر اللہ حفاظت کے لئے کافی ہے۔ پھر وہیں بیٹھے آپ نے ان دونوں
 میں فیصلہ کیا اور جب کھڑے ہوئے تو وہ دیوار اڑ پڑی۔

ابن ابی شیبہ عطا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایسا آدمی جس پر دو شخصوں
 نے چوری کی گواہی دی تھی لایا گیا۔ آپ نے لوگوں کے پیچھے اور ان کے احوال میں توجہ کی۔
 اور جھوٹے گواہوں کے باپ میں بہت کچھ تہدید بیان کی اور فرمایا چپ چھوٹے گواہ میرے
 پاس لائے گئے تو میں نے انہیں ایسی ایسی سزا دی۔ پھر آپ نے ان دونوں گواہوں کو
 بلایا اور انہوں نے شہادت نہ دی۔ آپ نے انہیں اس شخص کو چھوڑ دیا۔

ابن عساکر جعفر بن محمد اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب کی
 انگوٹھی کا نقش نعم القادر اللہ تھا۔

زر بن عیش کہتے ہیں کہ دو شخص بیع کا کھانا کھانے بیٹھے۔ ان دونوں میں سے ایک کے
 پاس پانچ اور دوسرے کے پاس تین روپیاں تھیں۔ ان دونوں کے پاس ایک اور شخص
 نے آکر سلام کیا وہ بوسے آ بیٹھ جا کھانا کھانے لگا۔ وہ بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ اور انہوں نے

سبے برابر کھایا۔ جب کھا چکے تیسرا آدمی کھڑا ہو گیا۔ اور آٹھ درہم ڈال کر کہنے لگا لو جو میں نے
 تمہارا کھانا کھایا ہے اس کے عوض یہ درہم لے لو۔ وہ آپس میں جھگڑنے لگے۔ پانچ روٹیوں
 والے نے کہا میں پانچ درہم لوں گا۔ اور تو تین درہم کا مالک ہے۔ تین روٹیوں والے نے کہا
 میں کبھی راضی نہ ہوں گا تا وقتیکہ ادھی ادھی درہم تقسیم نہوں۔ پس اُن دونوں نے امیر المؤمنین
 حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس مراجعہ کر کے اُن سے اپنا قصہ بیان کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تین روٹیوں
 والے سے فرمایا تیرے پارے جو کچھ تجہ پر پیش کیا وہ تیرے حق میں بہتر ہے۔ کیونکہ اُس کی
 روٹیاں تیری روٹیوں سے زائد تھیں۔ تو تین درہموں پر راضی ہو جا۔ اُس نے کہا بخدا میں
 اس سے کبھی راضی ہوں گا تا وقتیکہ حق فیصلہ نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا حق کے رو سے تو
 نیچے ایک ہی درہم ملنا چاہیے۔ اور دوسرے کو سات دینے چاہئیں۔ اُس نے تعجب کی راہ سے
 کہا سبحان اللہ یہ عجیب بات ہے، فرمایا جیسا میں نے کہا ایسا ہی ہے۔ اُس شخص نے
 کہا آپ مجھے حق بات سمجھائیے۔ کہ میں اُسے قبول کروں۔ فرمایا کیا آٹھ روٹیوں کے چوبیس
 ٹلٹ نہیں ہوتے۔ تم تینوں نے انہیں برابر برابر کھایا۔ کھانے میں کسی کی زیادتی اور کمی
 معلوم نہیں ہوئی۔ اور تینوں برابر کھا کر اٹھے۔ تو نے آٹھ ٹلٹ کھائے۔ اور تیری تین روٹیوں
 کے نو ٹلٹ ہوتے ہیں۔ تیرے پارے بھی آٹھ ٹلٹ کھائے اور اُس کا پندرہ ٹلٹ کھ
 تھا۔ جس میں اُس نے آٹھ کھائے اور سات باقی رہے۔ جسے درہم والے نے کھالیا۔ اور
 تیرے نو حصوں میں سے ایک ہی حصہ اُس نے کھایا۔ تیرے ایک حصہ کے عوض ایک درہم

ہو سکتا ہے۔ اور اُس کے لئے سات حصوں کے عوض سات درہم ہونے چاہئیں۔ وہ بولا۔
بے شک اب میں راضی ہو گیا۔

ابوالاسود دیلی کہتے ہیں کہ میں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا جا کر کیا دیکھتا ہوں کہ آپ
سرخجکائے فکر مندوں کی طرح بیٹھے ہیں۔ میں نے عرض کیا آپ کس فکر میں ہیں۔ فرمایا
میں نے تمہارے اس شہر میں تغیر لغات سنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اصول عربیہ میں
ایک کتاب بنا جاؤں۔ میں نے عرض کیا اگر آپ نے ایسا کیا تو ہمیں زندہ کر دیا۔ اور ان لغات
کی بقا ہم میں رہے گی۔ پھر میں تین دن کے بعد اُن کے پاس حاضر ہوا۔ آپ نے میری طرف
ایک کتاب ڈال دی۔ جس میں لکھا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلام کل کا کل اسم ہے یا فعل
ہے یا حرف۔ اسم اُسے کہتے ہیں جو اپنے مسمی سے خبر دے۔ اور فعل وہ ہے جو مسمی کی حرکت
سے آگاہی بخٹے۔ اور حرف اُسے کہتے ہیں جس میں نہ تو فعل کے معنی ہوں نہ اسم کے۔ پھر
مجھے ارشاد کیا تو جستجو کر اور جو جو معلوم ہوتا جائے اس میں زیادہ کر دے۔ اسے ابوالاسود
معلوم کر تینی چیزیں تین حال سے خالی نہیں۔ ایک ظاہر دوسری مضمحل۔ تیسری جو نہ ظاہر نہ ہو نہ
مضمحل۔ ابوالاسود کہتے ہیں پھر میں نے اُس سے بہت سی چیزیں جمع کیں اور اُن کو حضرت
علی رضی اللہ عنہ پر پیش کیا۔ اُن میں سے بعض حروف ناصب بھی تھے۔ اور ان میں سے میں نے
اِن۔ اِن۔ لیت۔ لعل اور کات کو ذکر کیا اور اِلکن کو ذکر نہ کیا۔ آپ نے فرمایا تو نے لکن
کو کیوں ذکر نہیں کیا۔ عرض کیا لکن کو میں نے حروف ناصب میں شمار نہیں کیا۔ فرمایا

وہ تو ان ہی میں سے ہے۔ اسے بھی ان میں زیادہ کرنا۔
 امام احمد اپنی سند میں ابراہیم بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں کہ
 حضرت علیؓ نے فرمایا کہ رسول خدا نے ارشاد کیا ہے کہ آخر زمانہ میں ایک قوم ہے
 رافضی کہتے ہیں پیدا ہوگی وہ اسلام کو چھوڑ بیٹھے گی۔

امام احمد مقدم بن شریح سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے پوچھا کہ مجھے
 پیغمبر خدا صلعم میں سے کسی ایسے شخص کو بتلائیے جس سے موزوں کے مسح کو دریافت کر دوں
 فرمایا تو حضرت علیؓ کے پاس جا کر پوچھو کیونکہ وہ نبی صلعم کو ہر وقت چمٹے رہتے تھے۔ پس میں نے
 حضرت علیؓ کے پاس آکر اس مسئلہ کو دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا نبی صلعم نے ہم کو اپنے
 موزوں پر مسح کرنے کا ارشاد کیا جب ہم سفر کریں۔

ترمذی میں حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول خدا صلعم نے فرمایا کہ جنت میں شخصوں کی
 مشائق ہے۔ علیؓ اور عمار اور سلمان کی۔

مشائق حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

علیؓ کو براہِ نبویؐ نے بتلایا

یہ کیا شانِ عالی علیؓ نے بتلایا

سیادت کا اس کو طاعت سے پایا

نبیؐ کو نہیں ہیں نبیؐ نے بتلایا

علیؓ کا ہے رتیر خدا نے بڑھایا

پیمبر کی اک کنت دل ان سے بیانی

جو خاتونِ جنت سے پیدا ہوا ہے

علیؓ مثلِ نارون میرے معین ہیں

ہوں میں شہر علم اور علیؑ باب اس کا
 علیؑ متقی اور زاہد ہوئے ہیں
 کیا فتح خیبر سے طاقت کو ظاہر
 علیؑ نے سخاوت کی بھی انتہا کی
 علیؑ کا جو دشمن خدا کا ہے دشمن
 فضیلت میں تینوں صحابہ کے پیچھے
 سمجھ لو عزیزو کہ دنیا و دین میں

یہ قول ان کے حق میں پھیر سے آیا
 علیؑ کا عبادت میں اوچھا ہے پایا
 کچھ شقیوں کا اس سے ہلایا
 کہ اس سے بھی راضی خدا کر دکھایا
 علیؑ کا پیارا نبیؐ کو ہے بھایا
 علیؑ نہیں کہ ان کا ٹہم سے آیا
 علیؑ کا ہے رتبہ خدا نے بڑھایا

خدا یا طفیل علیؑ راغ طالب

تو رکھ عبد پر اپنی رحمت کا سایا

فضائل حضرت چہار یار رضی اللہ تعالیٰ عنہم

ابن عساکر حسن سند کے ساتھ انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلعم نے فرمایا
 چار شخص ایسے ہیں جن کی محبت منافق کے دل میں جمع نہیں ہوتی۔ اور انہیں بجز مومن کے
 اور کوئی دوست نہیں رکھتا۔ وہ حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔
 سفید اپنی کتاب میں قاسم بن محمد بن ابی بکر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر و عمر و عثمان
 و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت کے زمانہ میں فتوے دیتے تھے۔

امام شافعی صحیح سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا ہیں اور ابو بکر اور عمر

اور عثمانؓ و علیؓ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے ایک ہزار برس پہلے عرش کے دائیں طرف نور تھے
 پس جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ہم ان کی پیٹھ میں آئے اور اس وقت سے ہمیں
 پاک پیٹھوں میں منتقل ہوتے رہے۔ یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے مجھے عبد اللہ کی پیٹھ میں منتقل کر دیا
 اور ابوبکرؓ کو ابو جحافہ کی پیٹھ میں اور عمرؓ کو خطاب کی پشت میں اور عثمانؓ کو عفان کی پیٹھ میں
 اور علیؓ کو ابوطالب کی پشت میں نقل کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں میرے لئے یار و دوست
 بنا دیا۔ پھر ابوبکرؓ کو صدیق اور عمرؓ کو فاروق اور عثمانؓ کو ذی النورین اور علیؓ کو ولی
 بنایا۔ جس نے میرے یاروں کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا۔ اور جس سے مجھے برا کہا۔
 اس نے خدا کو برا کہا۔ اور جس نے خدا کو برا کہا اسے خدا تعالیٰ دو نوں نتھنوں کے بل
 اوندھا آگ میں ڈالے گا۔

طہراتی اپنی دو نوں کتابوں ریاض اور عمدہ میں لکھتے ہیں کہ رسول خداؐ نے فرمایا کہ مجھے جبریلؑ
 نے خبر دی کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدمؑ کو پیدا کیا اور ان کے جسم میں ان کی روح داخل تو
 میں نے حسب الارشاد ایزدی ایک سیب حنت کالے کر ان کے حلق میں نچوڑا۔ پس خدا
 نے اس پہلے سیب سے آپؐ کو اور دوسرے سے حضرت ابوبکرؓ کو اور تیسرے سے حضرت
 عمرؓ کو اور چوتھے سے حضرت عثمانؓ کو اور پانچویں سے حضرت علیؓ کو پیدا کیا۔ اس وقت
 آدمؑ نے فرمایا اے میرے رب جن لوگوں پر تو نے اپنی ایسی بزرگی کی ہے یہ کون ہیں۔
 حق سبحانہ نے جواب دیا کہ یہ تیری نسل میں پانچ شیخ ہوں گے۔ اور وہ میرے نزدیک

تمام مخلوق سے زائد بزرگ ہیں۔ پھر جبریل نے کہا اسے محمد صلعم آپ تمام پیغمبروں اور نبیوں سے افضل
 واکرم ہیں۔ اور یہ چار دن صاحب تمام پیغمبروں کے تابعداروں سے زائد بزرگ ہیں پھر جب آدمؑ
 نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی تو کہا اسے میرے رب ان پانچوں شیخوں کے طفیل سے جن کو تو نے
 بزرگی اور فضیلت دی ہے میری توبہ قبول کر۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا میرے بعد خلافت کا زمانہ تیس برس
 رہے گا۔ پھر اس کے بعد ایذا دینے والے عالم بادشاہ ہو جائیں گے۔

ابو داؤد میں سعید سفینہ حضرت ام سلمہ کے غلام سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا
 کہ خلافت نبوت یعنی سنت کے موافق کامل تیس برس تک رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنا ملک جسے
 چاہے گا دیدے گا۔ سعید کہتے ہیں مجھ سے سفینہ نے کہا تو حساب کر اور یاد رکھ کہ حضرت
 ابوبکرؓ کی خلافت دو برس رہی۔ اور حضرت عمرؓ کی دس برس اور حضرت عثمانؓ کی بارہ برس
 اور حضرت علیؓ کی چہ برس۔

مسلم میں ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے سنا اور دریافت کیا کہ
 اگر رسول خدا صلعم کسی کو اپنے سامنے خلیفہ بناتے تو کس شخص کو بناتے۔ فرمایا۔ حضرت ابوبکرؓ
 کہا گیا حضرت ابوبکرؓ کے بعد کسے خلیفہ بناتے فرمایا۔ حضرت عمرؓ کو۔ کہا گیا حضرت عمرؓ کے بعد فرمایا۔
 ابوعبیدہ بن جراح کو۔

سفینہ رسول خدا کے نبوی سے روایت ہے کہ جب رسول خدا نے مسجد نبویؐ تو بنیاد میں آپ نے

ایک پتھر رکھا۔ اور حضرت ابو بکرؓ سے فرمایا تم میرے پتھر کے پہلو میں ایک پتھر رکھو۔ پھر حضرت عمرؓ سے فرمایا کہ ابو بکرؓ کے پتھر کے پہلو میں تم اپنا رکھو۔ اسی طرح حضرت عثمانؓ سے فرمایا کہ عمرؓ کے پتھر کے پہلو میں اپنا پتھر رکھو۔ پھر فرمایا یہ لوگ میرے پیچھے خلیفہ ہوں گے اس حدیث کو ابن جریر نے صحیح اور حیدر سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

مناقب حضرات چہار یار رضی اللہ تعالیٰ عنہم

خدا کی شان ہے اللہ اکبر	شائے مصطفیٰ ہے ہر زبان پر
خدا جیسا ہے ذات اپنی میں بکتا	نبی جیسا نہیں کوئی پیغمبر
محمد مصطفیٰ کے چار اصحابؓ	وہ چاروں تھے نبی کے خاص دلبر
خدا اور مصطفیٰ کے تھے پیارے	ابو بکرؓ و عمرؓ عثمانؓ و حیدر
وہ چاروں یار تھے امت کے سردار	وہ چاروں یار تھے امت کے رہبر
دننگ ان کو نہ تھا حکم خدا سے	وہی کرتے جو فرماتے پیغمبر
نبی پر دل سے چاروں بتلاتے تھے	فدا کرتے تھے مال و جان برابر
نہایت نرم دل تھے صاحبِ خلق	مگر تھے سخت دین کے دشمنوں پر
کہدورت ان کو آپس میں نہیں تھی	رہے باہم مثالِ شیر و شکر
اعانت سے ہوا دیں ان کے بھاری	انہوں نے کر دیئے سب دور پتھر
کہیں تھی لاث و غزائی پرستش	کہیں تثلیث کا چلنا تھا منتر

مہیا کفر کو دین کو ابھارا رہ شرع ہدای کو یوں سنوارا وہ چاروں دوست حضرت کے خلیفہ نہوں وہ مومنوں کو کیوں پیار محمد مصطفیٰ کا ہے یہ ارشاد یہی چرخ ہدای کے ہیں ستار	خدا سے ہو گئے چاروں منظر کہ جس سے ہو گئے کفار ششدر مخالف ان کا ہے کج بخت ابتر نشانی ہے یہی ایمان کی اظہر کہ ہیں اصحاب میرے سب سے بہتر یہی راہ ہدایت کے ہیں رہبر
--	--

خدا یا تیری رحمت عبد پر ہو
طفیل چار اصحاب پیمبر

صلیہ شریف حضرت پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام

د مبارک میانہ - رنگ مبارک بلج - سر مبارک بڑا - موٹے مبارک سیاہ و نرم قدرے خمدار
یشانی مبارک کشادہ - ابروٹے مبارک باریک کمان کی طرح - چشمان مبارک بڑی -
خسار مبارک نرم پُر گوشت - بینی مبارک بلند - لبھائے مبارک خوبصورت - دندان مبارک
سفید و جلی و کشادہ - ریش مبارک بھری ہوئی - دست مبارک لمبے - کف دست مبارک
پُر گوشت اور بہت کشادہ و نرم - سینہ مبارک چوڑا - انگلیاں دست مبارک لمبی اور خوشنما
میان دو ٹوکندھوں کے ہر نبوت لا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ لَا

ساق مبارک ہموار صاف و گول۔ قدم مبارک کے کف پا پر گوشت تھی۔ نخرقین کہ حضرت
علیہ الصلوٰۃ والسلام میں جو چشمہ اور منبع اور صدر اور مخزن الوار الہی بصورت لشر تھے

سب خوبی اور لطافت جیسی کہ چاہئے بدن مبارک و ہر عضو میں ایسی تھی کہ سب خوب صورتوں
پر ترجیح رکھتی تھی گویا سب کا حن آپ میں جمع کر دیا تھا۔

خوبی و شکل و شمائل حرکات و سکنات۔ آچہ خوباں ہمہ وارند تو تنہا داری

کنیت حضور کی ابو القاسم۔ لقب مصطفیٰ۔ والد ماجد کا نام حضرت عبد اللہ و والدہ ماجدہ کا

نام حضرت آمنہ۔ ولادت آنحضرت صلعم ۱۲ ربیع الاول روز دوشنبہ ۵۶۹ عیسوی

بعد طلوع صبح صادق پیش از طلوع آفتاب مکہ معظمہ زاد اہل شہر تھا میں ہوئی۔ بادشاہ وقت

نوشیروان۔ ازواج مطہرات پندرہ۔ اولاد تبرکہ نو۔ عمر شریف ۶۰ سال۔ وفات شریف

۳۔ ربیع الاول ۱۱ بجوی الملعے روز دوشنبہ کو وقت دوپہر مدینہ منورہ میں ہوئی۔

خلیفہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ

سفید رنگ۔ لاغر بدن۔ آن کی ناف اور پیٹ زرد بھرا ہوا۔ جس سے تہ بند نہ بھرتا تھا

چہرہ پر پسینہ رہتا تھا۔ خوب صورت و نہسی ہوئی آنکھیں۔ بلند پیشانی۔ منہ پر گوشت کم رنگ

کے پورے گوشت سے خالی۔ بال سیاہ سپیدی مائل تھے۔ کتم اور مہندی سے خفا

کرتے تھے۔ کنیت ابوبکر۔ لقب صدیق اکبر و عتیق۔ نام شریف عبداللہ ابن ابی قحافہ۔ آپ

والدہ شریفہ کا نام ام الخیر مسلمی بنت خنجر۔ ولادت شریف واقعہ نبیل سے دو برس

بعد ہوئی۔ بعد وفات حضرت علیؑ والدہ و آلہ و اصحابہ وسلم کے دو برس تین مہینے فطرت
 کر کے ۲۲ جمادی الثانی روز دوشنبہ کو ۶۳ برس کی عمر میں وفات پائی۔ مدفن آپ کا
 مدینہ منورہ میں حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں ہے۔

خلیہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ

سفید رنگ زیادتی مائل۔ دراز قد۔ سرخ آنکھیں جسم۔ سر کے بال گھن دار و پھیڑ۔ دو نوخساروں میں
 کم تھا۔ موچھیں بڑی بڑی جن کی نوکیں سرخ تھیں۔ کنیت ابو حفص۔ لقب فاروق
 اعظم۔ نام شریف حضرت عمرؓ آپ کی والدہ شریفہ کا نام جنت بنت ہاشم۔ ولادت
 واقعہ قبل سے ۱۳ برس بعد۔ خلافت دس برس لگھ ماہ۔ وفات ۱۰ ماہ محرم بروز یکشنبہ
 ۲۳ ہجری المعانی کو ۶۳ برس کی عمر میں شہید ہوئے۔ مدفن آپ کا مدینہ منورہ میں
 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ میں ہے۔

خلیہ امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ

قد میانہ رنگ سفید سرخی مائل۔ چہرہ بہت خوبصورت تھا۔ ڈاڑھی بہت بڑی تھی۔ گونگھ
 والے گھنے بال۔ دانت سب لوگوں سے زائد خوبصورت۔ زردی کا خضاب اکثر کرتے تھے
 کنیت ابو عمر البلی یا ابو عبد اللہ۔ لقب ذوالنورین۔ نام حضرت عثمانؓ۔ والدہ شریفہ کا
 نام بیضا۔ ولادت واقعہ قبل سے ۶ برس بعد۔ خلافت ۱۲ سال۔ ۱۸ ذی الحج جمعہ کے دن
 ۸۸ برس کی عمر میں بمقام مدینہ منورہ شہید ہوئے۔ مدفن جنت البقیعہ میں ہے۔

صلیہ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

زنگ سفید۔ بڑی آنکھیں۔ بڑا پیٹ۔ چھوٹا قد۔ گھنے بال۔ ریش دراز۔ سر اور ڈاڑھی کے

بال سفید۔ لقب آپ کا مرتضیٰ۔ کنیت ابو الحسن و ابو تراب۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ

بنت اسد۔ ولادت آپ کی کعبہ شریف میں بعد عائلِ فیل کے۔ بادشاہ وقت شہریار۔ عمارت

الملك لله الواحد القهار۔ ازواج ۶۱۔ اولاد ۱۶۔ وفات ۶۱۔ رمضان المبارک

روز یکشنبہ ۳۴ھ۔ عمر ۶۳ سال۔ خلافت ۴ سال ۹ ماہ۔

تمام شد

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ ارْحَمْ أُمَّةَ

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ انصُرْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اللَّهُمَّ انصُرْ لِمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اصْلِحْ أُمَّةَ

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ فَرِّجْ عَن أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ كَرِّمِ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اللَّهُمَّ عِظْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ تَجَاوَزْ عَن

أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

جدید نچہ سبجانی

جدید تحفہ سبجانی

شکوہ سبجانی

گلدستہ سبجانی

نچہ سبجانی

تحفہ سبجانی

سبجانی بختی

قصہ مہر اکبر شاہ

قصہ بیرو را بھامیر نشا


توہ بہاول قانی

نامہ پار

نعت صادق

پہلے کے کتب اور قرآن شریف کتب خانہ سبجانی بہاول پور سے بکنا بیت ہو سکتے ہیں۔

حاجی محمد عبد الجبار سوواکری بہاول پور
کی چھپوانی ہوئی
کتابا ہیں



اے مسلمان بھائیو

یہ کتاب جو اپنی نظر آئی ہے۔ اور مستند احادیث کا ترجمہ ہے۔ امید ہے کہ اہل علم و دانش اس کتاب کو بہت ہی پسند فرمائیں گے۔ اور کوتاہ اندیش مخالف جو ظاہر بعض اہل سنت جماعت سے کہلاتے ہیں اور باطن میں وہ رافضی اور خارجی ہیں اور بعض علانیہ رافضی و خارجی ہیں وہ اس کتاب فضائل چھار بارہ کے ان صابان کے فضائل پر کہ جن کے وہ مخالف ہوں گے نکتہ چینی نگاہیں ڈالیں گے۔ اور اس سے عیب جوئی کرنے پر مستعد ہوں گے۔ کیونکہ مدت سے ان کی عیب بینی نگاہیں اس کتاب کی انتظار میں تھک کر بیٹھ گئی ہیں۔ اس لئے ہماری یہ کتاب ان کے لئے بھی ایک مشعدہ ہے۔ لیکن مولف کو اپنے احباب صاحب کمال نازک خیال اہل علم و دانش کے سامنے کوتاہ اندیش مخالفین کی نظریں چمکھائی دیتی ہیں۔ پس ان کی عیب بینی اور نکتہ چینی سوائے اس کے کہ خود ان کے لئے ہی رسوائی کا موجب ہو اور کیا فائدہ دے سکتی ہے۔ اے مسلمان بھائیو۔ گمراہ کرنے والے لوگوں سے بچو۔ اور ہدایت کا رستہ اختیار کرو۔ تاکہ دنیا اور آخرت میں بھلائی ہو۔

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

=====

ہم اپنے معاونین رؤسائے شہر۔ تاجران اور خیر خواہان دوستان کے یہ دل سے مشکور ہیں۔ جو اپنی دلی شفقت اور خالص توجہ سے وقتاً فوقتاً ہماری دکان کو کار خدمات سے سرفراز فرماتے رہے۔ اور ہمیشہ ہماری بہبودی اور ترقی کے خواہان رہے۔ اور اپنے تجربے سے ہم کو دیگر سوداگروں اور دکانداروں پر فوقیت اور ترجیح دیتے رہے۔۔۔ واقعی ہماری دکان پر اشیاء کا نرخ پختہ سب کے لئے یکساں رہا۔۔۔ مسلمان۔ ہندو۔ امیر و غریب۔ واقف۔ سب ایک بھاؤ سے سودا خرید کرتے رہے۔۔۔ صرف نقد کی پابندی رہی ^{اور} ہمارے اشیاء خرید کرنے والوں کے علاوہ تمام خریداران ہماری نیک معاہدہ کے مع خوالا سہمے ہیں ^{اور} پس اسے صاحبان ذیشان اپنی خیر خواہی اور خیر سگالی کا اظہار کما حقہ فرما کر کے لئے ہم کو اپنا شکر گزار بنا دیں۔ ہماری دکان کا نام کتب خانہ سجانی ہے۔ جس میں کلاہ تری۔ قند پشاوری۔ اور کلاہ ہر قسم کے اور صاف و ریشمی۔ سری ہرزنگ ہر پاپ کے اور موسم سرما و گرما کا کل سامان چھاتے۔ گلوبند۔ بنیان۔ دستانے۔ موزے اور جٹلیہیں سامان کالر۔ نکٹی۔ گھڑیاں۔ چین۔ بید۔ تو بستی۔ جلد۔ ٹرینگ۔ گیلے۔ گیٹس۔ رمال۔ بینک۔ صابون۔ عطریات اور بوٹ۔ شوڑ۔ گڑیاں۔ سیلے اور ضروریات کے بہت سامان جن کی تفصیل بہت لمبی ہے۔ یہاں نہیں لکھی جاتی۔ اور ہر قسم کے ظروف۔ اینٹل۔ ساخت مراد آبادی۔ چینی اور بلوری اور ہر ایک طرح کے لمپ روشندان دستی۔ سقفی۔ شیل۔ تاونی قسم سے لے کر اعلیٰ اعلیٰ قسم کے اور فضل و غیرہ وغیرہ۔ غرض اس چھوٹی سی دکان رکت خانہ کو محزون عجائبات کہنا سجا ہے۔ صرف اپنے مسلمان بھائیوں کے لئے اس قدر اسباب مہیا کیے ہیں کہ شمار نہیں۔ اس لئے کہ وقت ضرورت ان کو غیر مذہب دکانداروں کا سودا دیکھنا نہ پڑے اور ہمارا ترقی کرنا بھی آپ مسلمانوں کا فخر ہے۔

کو احسان

مشند

حاجی محمد عبد السبحان سوداگر اینڈ جنرل مرنچیس بہاولپور۔ مالک کتب خانہ سجانی

تقریباً ۱۰۰۰ روپے

فضائل چہار یار

مولانا عبدالسبحان

بہاولپور